

مظہر میں جہاں بے دینوں کے دل
پاروں اور اللہ تعالیٰ کی کثرت کیے

ایمان کی اولاد

مسئلہ یا رسول اللہ

S-1

573

مصنف

صاحبزادہ عبدالرشید سومر چشتی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل
یا رسول اللہ ﷺ کی کثرت کیجئے

ایمان کی جلاء

فی مسئلہ یا رسول اللہ ﷺ

مصنف
صاحبزادہ عبدالرشید تقیسم

مکتبہ ضیائیہ

بوہڑ بازار اقبال روڈ کمیٹی چوک راولپنڈی

Ph: 051-5552781, 051-5550649

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

ایمان کی جلاء	_____	نام کتاب
صاحبزادہ عبدالرشید تبسم	_____	مصنف
عبدالرؤف (النوید کمپیوٹر اکیڈمی (نازہ شریف)	_____	کمپوزر
2006	_____	اشاعت بار اول
1000	_____	تعداد
جمال پریس دینہ	_____	ناشر
60 روپے	_____	ہدیہ

☆ ----- ملنے کا پتہ ----- ☆

☆ کاشانہ چشتی نازہ شریف تحصیل جند ضلع انک
دیوان حضورؐ ایجوکیشنل کمپلیکس دیوان حضورؐ سوہا وہ جہلم
دارالعلوم جامعہ غوثیہ ضیاء القرآن دیوان حضورؐ سوہا وہ۔
☆ محمد یوسف جنرل سٹور مین بازار نازہ شریف
فون نمبر: 0300-5202603 057-2625233

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿انتساب﴾

میں اپنے ان اوراق کو بارگاہ مصطفوی ﷺ میں ہدیۃ عقیدتاً پیش کرنے کے بعد استاذی المکرم عالم باعمل پیکر اخلاص و وفا محقق ابن محقق علامہ ابن علامہ شیخ التفسیر والمحدث حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امین الحق چشتی گولڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے نام منسوب کرتا ہوں کہ جن کے تقویٰ ولہبیت علم و عمل پر اہل اسلام بالعموم اور علاقہ چھجھ حضرو کی غیور عوام بالخصوص فخر کرتی ہے۔
(گر قبول افتدزے عز و شرف)

﴿برائے ایصال ثواب﴾

ہم اپنے والد محترم جناب حاجی محمد اقبال مرحوم و مغفور کے ایصال ثواب کے لیے اس کتاب کی اشاعت کا اہتمام کر رہے ہیں تمام قارئین کرام سے التماس ہے کہ ہمارے والد بزرگوار کو دعائے مغفرت و بخشش میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقہ جاریہ کا پورا پورا ثواب انہیں عطا فرما کر ان کے درجات بلند فرمائے
آمین بجائے سید المرسلین ﷺ

طالب دعا

پسران محمد فیصل اقبال، محمد عامر اقبال، محمد کامران اقبال
حسن چیولرز کراچی کمپنی اسلام آباد درساکن منڈی بہاؤ الدین

﴿ ضروری وضاحت ﴾

یہ رسالہ میں نے 14 اگست 1997ء بروز جمعرات کو صرف تین دن میں مکمل کیا اس میں میرا کوئی کمال نہیں بس دربار مصطفویٰ سے رحمت کی خیرات کا صدقہ کہ مجھ جیسے بے ڈھنگے انسان سے دین کی خدمت اور مسلکِ حقہ سے محبت کا اظہار ان سطور کی صورت میں کروایا گیا۔

اتنے طویل عرصہ میں اس کا منظر عام پر نہ آنے کی کئی ایک وجوہات ہیں آخر جب دربار مصطفویٰ سے منظوری ہوئی تو اب مطالعہ کے لئے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اس طویل عرصہ میں میرے جدا جدا کبر صوفی کامل عالم باعمل استاذ الجن والانس حضرت علامہ الحافظ شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ میرے دادا جان عاشق قرآن جنا ب محمد خان صاحب، میرے نانا جان جناب چوہدری عبدالخالق صاحب اور خالہ زاد محمد اجمل حسین مرحومین اس دار فنا سے دار بقا کو انتقال کر گئے ہیں۔

میں اپنے ان اوراق پر رب تعالیٰ کی طرف سے بصدقہ نعلین مصطفویٰ ﷺ ملنے والے اجر و ثواب کو ان کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ تمام مومنین مومنات کے ہمراہ انکی بخشش فرمائے آپ سے بھی گذارش ہے کہ میرے دن بزرگوں کو اپنی دعائے مغفرت میں اور مجھ جیسے ناکارہ انسان کو دعائے رحمت میں ضرور یاد رکھنا۔ والسلام

صاحبزادہ عبدالرشید تبسم

﴿تقریظ از قلم﴾

راس الاقنیاء استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر
حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی محمد نعمان صاحب غورغشتوی
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد

صاحبزادہ عبدالرشید صاحب کا مؤلفہ رسالہ ایمان کی جلاہ تقریظ کے لئے موصوف نے پیش کیا۔ میں اس قابل تو نہیں کہ کچھ کہوں مگر یہ مسئلہ اندھی تقلید کی وجہ سے وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ نماز پڑھتے وقت ہم السلام علیک لکھا انہی پڑھتے ہیں اور صاحب درمختار نے لکھا ہے کہ قصد حکایت نہ کرے بلکہ قصد انشاء کرے اور ویسے بھی گلوکار کے گانے اور تصویر بذریعہ ٹیلی ویژن اور وی سی آر دیکھتے ہیں۔ کیا جبرائیل و میکائیل علیہ السلام میں بجلی اتنی بھی طاقت نہیں ہے خدا سمجھ دے اندھوں کے آگے رونا آنکھوں کا نقصان ہے۔

والسلام
مفتی محمد نعمان عفی اللہ عنہ وعن الیہ
غورغشتی انک

﴿تقریظ از قلم﴾

استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد غوث شاہ صاحب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی خاتم النبیین و علی الہ

و اصحابہ الطہرین

اما بعد! بندہ نے جب یہ رسالہ مجالہ ورد یا رسول اللہ ﷺ دیکھا تو زبان سے یہ الفاظ فوراً صادر ہوئے۔

ذوق و شوق سے کریں ورد یا رسول اللہ

کہ ساقی جام کوثر ہیں آپ یا رسول اللہ

صاحبزادہ عبدالرشید تبسم صاحب خطیب غور غشی نور اللہ صدرہ نے ورد یا

رسول اللہ کے بارے میں فصیح و بلیغ بڑی وضاحت سے بیان تحریر کیا اور دلائل شواہد

سے اور اکابرین حضرات کے حوالہ جات سے مزین کیا اور یہ محض فیضِ محبت اور عشق

حضور نور الانوار ﷺ سے جو دل میں تھا وہ صفحہ قرطاس میں آیا۔ اور عام فہم طریقہ

سے مسئلہ ذکر یا رسول اللہ کو توحید کے مسئلہ کے بعد تحریر کیا۔ اور عوام پر واضح کر دیا۔

نماز میں ہم السلام علیک ایہا النبی بڑھتے ہیں اسکے مارے میں

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

بعض جہل مرکب میں مبتلا ہو کر یا ضد کی آڑ میں کہتے ہیں کہ یہ بطور حکایت اور قصہ پڑھتے ہیں یہ دلیل غلط ہے اس عقیدت سے نماز کس طرح ہوگی۔ حضرات نماز نہ حکایت ہے اور نہ قصہ اور نہ ہی نقل ہے بلکہ حکم ہے اَقِمُوا الصَّلٰوةَ اَوْذِیٰوِیْمٰیوُنِ الصَّلٰوةَ یٰہِکُمْ اِدَا صَّلٰوةَ کَ لَئِیۡ پانچ وقت تمام زندگی میں بطور تہجد اور حدیث یہ جملے فعلیہ ہیں اور ہر نماز نئی عبادت ہے اور

اختیار سے فاقراء ماتیسزامن القرآن کی دلیل سے جس صورت سے پڑھے اور اگر نقل کے طور پر یہ عبادت ہوتی تو ادا اور قضاء میں فرق نہ ہوتا تو ندا اور خطاب حضور قلبی سے ہم ادا کریں اور حمد و ثناء احسان سے ادا کریں۔ اور احسان کا معنی حدیث میں مذکور ہے، حضرات ایسی نماز ادا کرنے کا حکم ہے اور رب کی بارگاہ میں ایسی نماز ہی شرف قبولیت والی ہوگی۔ اور ایسی نماز نخلع و تترك من یفجرک اوزان الصلوة تنہی عن الفحشاء ولمنکر والبغی والی ہوگی۔ یعنی فسق و فجور منکر بغاوت سے روکنے والی ہوگی۔ جو محبت اور عشق رسول ﷺ سے بھری ہونہ کہ وہ نماز جو حکایت اور نقل ہو۔

خویدم الشرح

محمد غوث شاہ جلالوی جلالیہ انگ

﴿ تقریظ از قلم ﴾

حضرت علامہ مولانا ابوالحسن حافظ محمد ریاض چشتی میروی

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

اما بعد! فاضل نوجوان مقرر جادو بیان حضرت صاحبزادہ عبدالرشید تبسم صاحب نے جو رسالہ ایمان کی جلاء (ندائے یا رسول اللہ) تحریر فرمایا ہے۔ اسے ایک نظر دیکھنے کا اتفاق ہوا الحمد للہ یہ رسالہ غلامان مصطفیٰ ﷺ کیلئے ایک بہترین تحفہ ہے کیونکہ آج کے پرفتن دور میں اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا جس پر اعمال کی قبولیت کا دار و مدار ہے بہت ضروری ہے۔ اس رسالہ کا مطالعہ ہر خاص و عام کیلئے بہت مفید ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جس طرح مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح سرکار کا غلام یا رسول اللہ پکارنے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اور پھر پیر طریقت مفسر قرآن حضرت علامہ مفتی محمد ریاض الدین قادریؒ نے اپنی تفسیر ریاض القرآن میں اس مسئلہ کی یوں وضاحت فرمائی کہ ”ک“ جو ایاک نعبد میں ہے وہی السلام علیک میں ہے گویا اے عابد جس طرح ذات خدا کو حاضر و ناظر جان کر نماز شروع کی ہے۔ اسی طرح ذات مصطفیٰ کریم ﷺ کو حاضر و ناظر جان کر نماز ختم کرنا۔

مزید فاضل محترم نے مخالفین کی کتب سے حوالہ جات پیش کر کے سونے پر سہا کہ چڑھایا ہے میری یہ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل سلیم کو رسالہ ایمان کی جلاء سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

بحرمت سید المرسلین و علی الوہابہ اجمعین

راقم الحروف

فقیر ابوالحسن حافظ محمد ریاض چشتی

خادم دارالعلوم غوثیہ رضویہ ریاض السلام آنک شہر

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿نگاہ اولین﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ:

نَحْمَدُكَ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِكَ الْكَرِیْمِ

وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اٰجْمَعِیْنَ

برادران اسلام کی خدمت میں نہایت ادب اور خلوص کے ساتھ گزارش ہے کہ اس رسالہ کو اول سے آخر تک ٹھنڈے دل سے غور کے ساتھ ضرور پڑھیں۔
تعصب اور شخصیت پرستی سے الگ ہو کر ایمان داری اور حق پرستی سے کام لیں اور حق کام کی پہچان کریں انشاء اللہ ایک دفعہ مطالعہ سے حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جائیگی۔

برادر مولا نا عبدالرشید صاحب کو یہ رسالہ لکھنے پر اس لئے مجبور کیا گیا کہ آج کل عوام کو خواہ مخواہ شرک و بدعت کے فتووں سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ ایسے حضرات کو قرآن مجید کے اس قول پر بڑی گہرائی کے ساتھ توجہ دینی چاہیے تھی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَاٰتَاكُم مِّنْهَا كُمْرًا فَانْتَهُوْا (الحشر)
جو چیز تمہیں تمہارا رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔
آج جن افعال حنہ سے ہمیں منع کیا جاتا ہے کیا آج ان کی ممانعت مختار کل آقا علیہ السلام سے بھی ثابت ہے یا کہ نہیں؟ یقیناً نہیں۔

برادر م نے نہایت احسن انداز میں مسئلہ ندائے یا رسول اللہ کو قرآن و

کے اقوال سے واضح کیا ہے۔

برادر م کا کسی سے ذاتی عناد یا عداوت نہیں ہے الحب للہ
والرسول والبغض للہ والرسول کے تحت غیرت ایمانی کا سچا اور صحیح
مظاہرہ کیا ہے۔ لہذا بار دیگر اس رسالہ کے مطالعہ کیلئے عرض گزار ہوں۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو (آمین بجاہ سید المرسلین)

طالب دعا

سید منور علی شاہ بخاری قادری رضوی

غور غشی انک

﴿حمد باری تعالیٰ﴾

پیرسید غلام معین الدین شاہ رحمۃ اللہ علیہ المعروف بڑے لالہ جی سرکار گولڑہ شریف

تکلتی ہے دل سے صدا اللہ اللہ

مزا دے رہی ہے یہ کیا اللہ اللہ

حرم میں کلیسا میں مندر میں ہر سو

ہر اک چیز کہتی ہے یا اللہ اللہ

جھلک دے رہی ہے ہر اک شے میں کیسی

تیری پیاری پیاری ادا اللہ اللہ

خدا کی خدائی میں بے ڈر ہے کتنا

محمد کے در کا گدا اللہ اللہ

کھلا راز منصور پر جب تو بولا

انا الحق انا الحق انا اللہ اللہ

مزا زندگانی کا جب آئے مجھ کو

زباں پر ہو صبح و مس اللہ اللہ

حقیقت میں دیکھو نہیں غیر کوئی

یہ کیا پھیر ہے آنکھ کا اللہ اللہ

مجھے یاد آتا ہے مشتاق ہر دم

دیارِ حبیبِ خدا اللہ اللہ

﴿نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم﴾

یا رسول اللہ خبر لو ہجر کے بیمار کی
میرے دل میں آرزو ہے آپکے دیدار کی
میرے اللہ آئے گا کب اذن وصل میرا بھی
آنکھ طالب کب سے میری آپکے دیدار کی
جب بھی چلتی ہے مدینہ پاک کی باد صبا
کرتی جاتی ہے وہ باتیں آپ ہی کے پیار کی
جب بھی آیا در پہ تیرے سائل آقا کوئی بھی
بھر کے جھولی صفت بولا آپکے دربار کی
جب بھی کہتا ہے کوئی نعت پڑھنے کو مجھے
جرات ہو سکتی نہیں مجھ سے پھر انکا ر کی
سب ہی اچھا کہتے ہیں جنت کے گل گلزار کو
کیا بتاؤں شان ہے کیا طیبہ کے بازار کی
بات تیری بن ہی جائے گی تبسم ایک دن
کر غلامی تو بھی پیارے آقا کے دربار کی

(عبدالرشید تبسم)

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

﴿نعت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم﴾

تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ
خدا کا کر لیا ہم نے نظارا یا رسول اللہ
خدا کا وہ نہیں ہوتا خدا اس کا نہیں ہوتا
جسے آتا نہیں ہوتا تمہارا یا رسول اللہ
خدا حافظ خدا ناصر سہی لیکن یہ محشر ہے
یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ
گو پنڈت ہوں مگر آقا تمہاری نعت لکھتا ہوں
تمہارا نام لگتا ہے پیارا یا رسول اللہ

شاعر (چاند بہاری لال صبا ماتھ جے پوری)

﴿حرف آغاز﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

آئین جواں مرداں حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی

رب تعالیٰ نے اس دنیا کے اوپر بندوں کی ہدایت کی خاطر مختلف ادوار میں رسول معبوث فرمائے تاکہ انسانوں کو آدمیت کی تخلیق کا اصل مقصد بتایا جائے اور انکا اللہ وحدہ لا شریک سے تعلق بحال و مضبوط کیا جائے۔

اس دنیا کے اندر جو بھی رسول معبوث ہوا اسکی تبلیغ کا واحد مقصد توحید اور رد شرک

تھا۔ یعنی ہر رسول یہی بتاتا ہے کہ رب تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ لا یریلد و لا یر یولد ہے۔ وہی عبادت کے لائق ہے۔ کسی کے آگے سجدہ نہیں کرنا۔ معبود صرف وہی ہے اسکے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی معبود صرف وہی ہے اگر کسی اور کو عبادت کے لائق سمجھ کر عبادت کی اسکے آگے جھکے یا سجدہ کیا تو یہ شرک ہوگا اور شرک ناقابل معافی جرم ہے۔

آخر یہی تبلیغ کا سلسلہ چلتے چلتے نبی آخر الزماں مختار کل خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ تک آن پہنچا۔ آپ کی بھی تبلیغ کا مرکز و محور بھی یہی دو عنوان تھے۔ توحید اور رد شرک۔ اب اللہ کے فرمان و دین الحق لیظہرہ الدین کلمہ (التوبہ ۳۳) کے مطابق اسی دین اسلام نے پھیلنا بھی تھا۔ عام بھی ہونا تھا۔ اور باقی تمام ادیان کے اوپر غالب بھی آتا تھا۔ توحید کا پرچم سر بلند بھی ہونا تھا۔ شرک کا رد یعنی خاتمہ بھی ہونا تھا۔ اور اب قیامت تک اسی دین نے رہنا بھی ہے۔

اور ہاں سنئے! قربان جائیں آمنہ کے لال ﷺ پر کہ جنہوں نے ایسا کر دکھایا اور ایک ایسا اعلان سرمدی سنایا کہ جو کسی پیغمبر نے اپنی قوم کو نہیں سنایا۔ یہ اعلان ۱۱ ہجری کو کیا گیا۔ یکو سال حضور بر نور ﷺ کے وصال کا سال بھی تھا

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

نبی غیب دال ﷺ نے وصال کے دن قریب دیکھے تو حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں کہ ایک روز نبی کریم ﷺ شہداء احد کی قبروں کی زیارت کے بعد ممبر شریف پر جلوہ افروز ہو کر صحابہ کرام کے مجمع سے خطاب کیا اور کہا۔

”فقال انی فرطکم وانا شهید علیکم وانی واللہ لا نظر الی حوضی الا ان وانی قد اعطیت مفاتیح خزائن الارض وانی واللہ ما اخاف بعدی ان تشرکوا ولكن اخاف ان تنافسوا فیہا اور گواہ ہوں اور بے شک خدا کی قسم میں حوض کوثر کو اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ اور بے شک مجھے یہ خطرہ ہرگز نہیں ہے کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔ بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ (بخاری شریف جلد ۱ صفحہ ۵۰۸)

اس خطاب میں پیارے آقا ﷺ نے ایک ایسا پیغام دیا اور کھلے عام یہ اعلان کیا کہ میرے بعد میری امت دنیا کے جال میں تو پھنس سکتے ہیں۔ مگر شرک کا میں خاتمہ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کبھی مشرک نہیں ہوں گے۔

معلوم ہوا کہ عبادت کے لائق وہی رب ہے۔ معبود صرف وہی اللہ ہے اب جب بھی عبادت کے لئے جہیں جھکے گی تو صرف اسی رب کے سامنے جھکے گی۔ مگر ہاں شرط یہ ہے جہیں کا جھکتا صرف عبادت کیلئے ہو۔ اور اگر عبادت کی نیت نہیں تو پھر دن میں ہزار مرتبہ بھی زمین پر جہیں رگڑتے رہو اور داغ دار کرتے رہو نہ سجدہ ہوگا اور نہ ہی شرک ہوگا۔

قیام اور رکوع کے معنی یہ ہیں کھڑا ہونا اور جھکتا اب قیام اور رکوع میں نیت عبادت کی ہے نیت نماز کی ہے تو وہ قیام اور رکوع صرف رب کیلئے ہوگا اس کے علاوہ شرک ہوگا اور اگر یہ کھڑا ہونا نبی کے درود و سلام کیلئے ہو اور جھکتا محبوب

ﷺ کہلائے گا مگر افسوس آج کے اس پر فتن دور کے اوپر نظر ڈالیں تو آپ کو ہر طرف شرک کی تبلیغ نظر آئے گی۔ شرک کی کتاب شرک کا فتویٰ ہی سنائی دے گا کبھی حضور پر نور ﷺ کی ولادت کی خوشی منانا شرک۔ تو کبھی حضور ﷺ کو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کہہ دیا تو شرک کبھی عاشق درود و سلام کیلئے کھڑا ہو گیا تو شرک۔ کبھی محبت میں آ کر محبوب ﷺ کے در اقدس پر رب کی رحمت کی خیرات کیلئے بیٹھ گیا تو شرک۔ کبھی میلاد النبی ﷺ کا جلوس نکالا تو شرک۔ تو کبھی الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ﷺ جیسے ترانہ لم یزل کو الاپا تو شرک۔ کبھی نعرہ ابدی یا رسول اللہ لگایا تو شرک۔ تو کبھی یا ایہا الذین امنوا جان کریا علی۔ یا غوث کہہ دیا تو شرک۔ کبھی سیدنا امام حسین کے ایصال ثواب کیلئے سبیل لگائی تو شرک اور بدعت۔ تو کبھی امام اولیاء سیدنا عبدالقادر جیلانی کے ایصال ثواب کیلئے کچھ طعام (بنام گیارہویں شریف) پکایا تو شرک و بدعت۔ تو کبھی میلاد النبی ﷺ کے دن کچھ پکا کر تقسیم کیا تو شرک و بدعت۔ میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ جانے ان شرک و بدعت کہنے والے حضرات کو شرک اور بدعت کے معنی بھی آتے ہیں یا نہیں۔ یا صرف عاشقان رسول ﷺ کو تنگ کرنے اور امتحان لینے کا ایک ڈھنگ نہ ہو۔

بحر صورت اپنی اپنی سوچ اور اپنا اپنا خرد و خیال ہے۔ ہماری تو سوچ بھی اور ہمارا علم بھی اسی نتیجہ پر پہنچا کہ بس زندگی کا مرکز و محور۔ حیات کا مقصود اور دنیا و آخرت کی بھلائی فقط ادب و محبت مصطفیٰ ﷺ میں ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ خدا کی عبادت اور اس عبادت کے بعد دعا اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک اس میں ادب و محبت مصطفیٰ ﷺ شامل نہ ہو۔

جس دل میں محمدؐ کی محبت نہیں ہوتی
اس پر کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی
میرا یہ عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں
نام نہ شامل ہو تو عبادت نہیں ہوتی

ایمان کی علامت | اسلواۃ والسلام علیک یا رسول اللہ | اسلواۃ والسلام علیک یا رسول اللہ |

معزز قارئین کرام! دور حاضر میں ہر طرح کا اسلامی لیبل لگا کر اور ظاہری مسلم کا لبادہ اوڑھ کر امت مصطفیٰ ﷺ کو محبوب ﷺ اور در محبوب ﷺ سے دور کیا جا رہا ہے۔ جو کہ سامراجی وغیر مسلم طاقتوں کی گھناؤنی سازش ہے۔ ان سازشوں میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ ”یا رسول اللہ“ ”یا نبی اللہ“ کہنا ناجائز اور شرک و بدعت ہے۔ کیونکہ معاذ اللہ بقول مولوی اسماعیل دہلوی کے حضور پر نور ﷺ مر کر مٹی میں مل گئے ہیں۔ نہ وہ حاضر ہیں نہ سامع۔ حالانکہ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو رب تعالیٰ کے اس قول کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔

ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل

احیاء عند ربہم یرزقون (ال عمران)

ترجمہ ”اور تم ان لوگوں کو مردہ گمان بھی نہ کرو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں رزق دیے جاتے ہیں۔“

مترجمین اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ آیت شہداء کے حق میں نازل ہوئی ہے انبیاء اکرام کے لئے نہیں تو جواب یہ ہوگا یہ شہید بھی تو آخر نبی کا امتی ہے۔ اگر امتی قبر میں زندہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور رزق بھی کھا سکتا ہے۔ تو نبی تو بدرجہ اولیٰ اسکا حق رکھتا ہے۔ ویسے بھی نبی مقام شہادت سے سرفراز ہوتا ہے۔

سنئے حدیث پاک تاکہ ذہن سے یہ خدشہ بھی دور ہو جائے۔

”الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون“ (الخصائص الکبریٰ ج ۲-۲۸۱)

انبیاء علیہم السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نمازیں ادا کرتے ہیں۔

امام زرقانی فرماتے ہیں۔

”الانبیاء والشہداء یا کلون فی قبورہم و

یشربون ویصلون ویصومون ویحجون“

ترجمہ ”انبیاء اور شہدا اپنی قبروں میں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، نمازیں

پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اور حج کرتے ہیں۔ (زرقانی علی المواہب ۵-۳۳۳)

وجہ تالیف

بندہ حقیر پر تقصیر کا یہ رسالہ ترتیب دینا برائے اصلاح معاشرہ ہے نہ کہ برائے مناظرہ ہے میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ ”شاید کہ اتر جائے ترے دل میں میری بات“ باقی نہ ہی کسی کو تنقید کا نشانہ بنانا اور نہ ہی کسی کے مسلکی وقار کو مجروح کرنا مقصود ہے بس فقط رضائے رب اور رضائے آقا ﷺ مقصود و مطلوب ہے اس رسالہ سے بندہ اپنی مغفرت و بخشش کا طالب ہے۔ ہاں ایک گزارش ہے کہ اگر کچھ شریف میں کچھ آجائے تو پھر عمل کر کے میرے لئے بھی اور اپنے لئے بھی بخشش کا ساماں بنا لیں اور اگر کچھ پلے نہ پڑے تو اپنے لئے رب کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کریں۔

بندہ دیگر کئی مصروفیات کی بناء پر اور اپنی کم علمی کی بناء پر قلم اٹھانے کی جسارت تو نہ رکھتا تھا مگر پھر بھی برادر م سید منور علی شاہ بخاری رضوی۔ برادر م محمد اعجاز اور برادر م محمد قمر الزماں رضوی صاحب ساکنان غور غشی اور دیگر احباب کے اصرار پر بصدقہ تعلیم مصطفیٰ ﷺ اپنی کم علمی کا اظہار پیش خدمت ہے۔

اہل علم و دانش حضرات سے بھی اپیل ہے کہ بندہ کو اس بات کا پورا پورا احساس ہے کہ فن تحریر و تصنیف کی اہلیت نہیں رکھتا لہذا جہاں کی اور غلطی پائیں تو ازراہ کرم برائے اصلاح بندہ کو ضرور مطلع فرمائیں۔ اور قارئین کرام اگر کوئی بھلائی اور خیر کی بات دیکھیں تو یہ فقط اللہ کی توفیق صاحب گنبد خضریٰ کے در کی خیرات اور حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ تاجدار گولڑہ شریف کے در کے فیض پر محمول کریں۔

یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے

جس نے لگا یا یہ نعرہ اس کا بیڑا پار ہے

والسلام

احقر صاحبزادہ عبدالرشید تبسم چشتی

ناڑہ شریف

14 اگست 1997ء بروز جمعرات

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

برادران اسلام! دور حاضر میں اولاً تو اسلام کی ہر بات پر طعن و تشنیع کی جاتی رہی ہے اور غلامانِ مصطفیٰ ﷺ کو شرک و بدعت کے فتوؤں میں پسا جاتا رہا ہے اور تاجدارِ مدینہ سرورِ قلب و سیدِ عالمین ﷺ سے متعلقہ امور پر شرک و بدعت کے فتاویٰ نے اہل اسلام کو پریشان کر رکھا ہے ان امور میں سے ایک امر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ہے اس نعرہ ابدی کو بڑے شد و مد کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن قدرت الہی کا فیصلہ ہے۔

وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (پ ۳۰۔ المر نشرح ۴) اور رب قدوس کو کچھ اس طرح منظور بھی ہے کہ یہ جتنا بھی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسکو اتنی ہی پذیرائی حاصل ہوتی ہے۔

آؤ دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت اور اقوال صحابہ کرام و محدثین کے نزدیک اس کے جواز اور عدم جواز پر کیا حکم ہے ہم سب سے پہلے لفظ یا رسول اللہ پر مختصری بحث کریں گے۔ پھر قرآن و سنت صحابہ کرام و محدثین و مفسرین کرام کے دلائل کے ساتھ اس رسالہ کا اتمام کریں گے۔

(۱) ﴿یا رسول اللہ اک و سبیلہ ہے﴾

یہ نعرہ ربط رسالت ہے۔ یہ سہ لفظی کلمہ ہے جو لفظ ندا "یا" سے شروع ہو کر لفظ "اللہ" پر ختم ہو جاتا ہے۔ یا اور اللہ کے درمیان لفظ رسول ہے۔ "یا" لفظ تلاش ہے اللہ مقصود ہے اس مقصود کو پانے کیلئے رسول واحد واسطہ اور وسیلہ ہیں اور

وسیلہ پکڑنا حکم الہی ہے۔ کہ اگر مجھے پانا چاہتے ہو تو وسیلہ رسالت اور واسطہ رسالت سے تلاش کرو اور شاد باری تعالیٰ ہے۔

”وابتحو الیہ الوسیلہ“ (مائتدہ : ۳۵)

اللہ کی طرف جانے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔ اب اپنا اپنا وجدان ہے کہ کسی نے اس وسیلہ کو اعمال صالحہ جانا اور کسی نے اولیاء کرام مراد لئے (شاہ اسماعیل دہلوی صراط مستقیم) اگر مقصود پانے کیلئے اعمال اور نیک لوگ وسیلہ بن سکتے ہیں۔ تو پھر نبی کی ذات بدرجہ اولیٰ حق رکھتی ہے ہاں اتنا ضرور ذہن میں رکھنا کہ بغیر واسطہ رسالت مآب کے یا اللہ کہنے سے یہ التجا صدای صحرار ہے گی لیکن ماجور نہ ہوگی۔ اک کسک رہے گی۔ مگر ماثر نہ ہوگی۔ اک تڑپ رہے گی۔ مگر مقبول نہ ہوگی۔ بلکہ یوں کہنا بے جا نہ ہوگا یا اللہ کہنے سے انسان اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اور یا رسول اللہ ﷺ کہنے سے اللہ خود بندے کا ہو جاتا ہے۔ قرآن شاہد ہے، ”وکانوا من قبل یتسکتون علی الذین کفروا۔ (البقرہ ۲: ۸۹)

اس سے پہلے وہ اس نبی ﷺ کے وسیلہ سے کافروں پر فتح مانگتے تھے۔ اگر اس نبی کی پیدائش سے قبل یہود اس کا وسیلہ دیکر کفار پر فتح حاصل کرتے تھے تو آج یہی نبی بعد از وفات وسیلہ کیوں نہیں بن سکتے۔ حالانکہ اس وقت بھی ظاہری طور پر نہ تھے اور آج بھی صرف ظاہری پردہ ہے۔

جس طرح پیغمبروں سے کلام کرنے کے لیے خدا نے جبرائیل کو وسیلہ بنا یا اسی طرح بندوں کی رہنمائی کے لئے انبیاء کو وسیلہ بنایا۔ یا رسول اللہ ﷺ اس بات کا اعلان ہے کہ ہم مصطفیٰ کریم ﷺ کے وسیلے کی مدد سے خدا کی مدد کے طلب گار ہیں کیونکہ خزینہ توحید فقط رسالت کی کنجی سے کھلتا ہے اور کسی چابی سے نہیں کھلتا۔

مقام افسوس ہے! اور ترف ہے ان لوگوں پر کہ جو واسطہ رسالت کے بغیر رب سے تعلق پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات میں ڈنکے کی چوٹ پر واضح کرنا چاہتا

ہوں کہ جس طرح رب انبیاء کے بغیر بندوں سے مخاطب نہیں ہوتا اسی طرح کوئی انسان بھی واسطہ رسالت کے بغیر رب کی معیت نہیں پاسکتا۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ جب خدا وسیلے کا قائل ہے تو یہ اس کے بندے ہو کر وسیلہ کے کیوں قائل نہیں جب کہ وہ خود کہتا ہے کہ ”میری طرف آنے کا وسیلہ پڑو“

(۲) ﴿یا رسول اللہ﴾ ذکر رسول ہے ﴿﴾

بندہ جس ہستی کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس کا ذکر بھی کثرت سے کرتا ہے۔ وہ ہر وقت ہر مجلس میں اپنے محبوب کے ترانے الاپتا ہے۔ اسی کی داستان کو چھیڑے رکھتا ہے۔ کبھی اسکے چہرے کی باتیں کبھی اسکی زلف کی باتیں کبھی اسکی آنکھوں کی باتیں۔ کبھی اسکے دانتوں کا تذکرہ کبھی اسکے تلووں کا ذکر کبھی اس کے جلووں کی باتیں۔ کبھی اسکے گھر کا ذکر کبھی اسکے در کا ذکر کبھی اسکے سینے کی باتیں کبھی اسکے قرینے کی باتیں، غرضیکہ جو جو لمحہ محبوب پر جس جس حال میں گزرتا ہے۔ اس کا بھی ذکر کرتا ہے پھر یہاں تک بس نہیں کرتا بلکہ ان لحات کو بھی یاد کرتا ہے جو اس نے اور محبوب نے آمنے سامنے بیٹھ کر گزارے ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ کو اپنے محبوب کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اسی کے تذکروں بھری ضخیم عظیم کتاب قرآن مجید اتار کر ہمارے سامنے نمونہ بنا کے پیش کر دیا ہے کہ دنیا والو! دیکھو مجھے اپنے محبوب کے ساتھ کتنی محبت ہے لہذا ”من احب شیاء فاکثر ذکرها“ کے تحت غلامی مصطفیٰ ﷺ کا تقاضا اول یا رسول اللہ کا ورد ہے ہمیں تو بس صرف دلہیز مصطفیٰ ﷺ تک رسائی کا حکم دیا گیا ہے۔ آگے خدا تک رسائی یہ مصطفیٰ کریم کا مقام ہے۔ بقول شاعر۔

تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا

میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا

اللہ کی محبت کا ہر کوئی دعویدار ہے مگر خدا کا تو اعلان ہے کہ میری محبت میں

کامل وہ ہوگا۔ جس کا سر پہنیز مصطفیٰ ﷺ پر خرم ہوگا۔ قرآن اسی فلسفہ کو یوں بیان کرتا ہے۔

”ان کنتم تحبون الله فاتبعونی بحببکم الله

(آل عمران ۳: ۳۱)

(اے محبوب تم فرما دو لوگو اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرمانبردار ہو جاؤ اللہ تمہیں دوست رکھے گا۔) شوئی قسمت جو بھی نسبت رسول میں شک رکھتا ہے کہ در رسول پر حاضری دوں یا نہ دوں یا رسول اللہ کا ورد کروں یا نہ کروں نبی کا غلام بنوں یا نہ بنوں وہ در در کی ٹھوکریں تو کھا سکتا ہے مگر خدا کا محبوب نہیں بن سکتا۔ کیونکہ وہ نبی کا بے وفا ہے۔ اسکا نبی کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

قانون محبت یہ ہے کہ جہاں شک پڑ جائے وہاں محبت کامل نہیں رہتی۔ اور جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو ایمان تو نام ہی غلامی مصطفیٰ ﷺ کا ہے۔ ایمان تو نام ہے۔ ذات مصطفیٰ ﷺ کے ساتھ تعلق کا ایمان تو ساری دنیا سے کٹ کر مصطفیٰ ﷺ کا ہی ہو جانے کا نام ہے۔ پڑھئے حدیث رسول ﷺ اور جھوم جھوم جائیے ”لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔“ تم میں سے ایک بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک بچوں سے بڑھ کر والدین سے بڑھ کر بلکہ ساری کائنات کے لوگوں سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت نہ کرے۔

نہ جب تک کٹ مروں خواجہ بطحا کی عزت پر

خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا

﴿یا رسول اللہ باوفا امتی ہونے کی علامت﴾ (۳)

اگر بے وفا امتی حقوق البنی ﷺ (جو کہ قرآن نے سورۃ اعراف آیت

۵ میں بیان کیے ہیں۔ کو زیر نظر رکھتے تو دماغ کے چودہ طبق روشن ہو جائیں کہ قرآن میں کہیں تو لکھا جائے کہ نبی کی ذات کو موضوع بحث بنایا جائے۔ آقا کی زبان اقدس پر زبان درازی کی جائے بخشش خدا کا فضل نبی کا صدقہ ہونے کی بجائے اپنے اعمال کا ثمر سمجھا جائے۔ نبی کی ذات مقدس کو وسیلہ بنا کر شرک سمجھا جائے۔ حضور پر نور ﷺ کے ذکر پاک کی محافل کو وقت کا ضیاع سمجھا جائے۔ بشریت کو درسوں کا موضوع بنایا جائے حقوق النبی ﷺ میں کہیں یہ بات شامل نہیں یاد رکھو حضور پر نور ﷺ کی شان کسی کے کم کرنے سے نہ کم ہوتی ہے اور نہ ہی ان کا ذکر مٹانے سے مٹتا ہے بلکہ مٹانے والے خود تو مٹ سکتے ہیں مگر ذکر رسول نہیں مٹ سکتا۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی احمد رضا خان رحمۃ اللہ نے کیا خوب کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے۔

نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا رسول اللہ ﷺ

پھر مٹے بھی کیسے جبکہ خود خدا نے اعلان فرما دیا اور بلکہ آقا کو یہ باور کرا دیا کہ ”ودفعنا لک ذکرك“ اے محبوب ﷺ ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لئے بلند کر دیا“ اب کوئی ذکر رسول کرے تو یہ اس کے اپنے بھلے کی بات ہے اور جو نہ کرے اس کے نہ کرنے سے مقام مصطفیٰ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ مجھے یہاں پر ایک لطیفے کے طور پر ایک بات یاد آئی جو کہ موقع کی مناسبت سے بیان کر دی جائے تو بے جا نہ ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ایک مسجد میں دیوار پر یا اللہ۔ یا رسول اللہ نقش تھا۔ ایک پڑھے لکھے جاہل شخص نے جب یا رسول اللہ لکھا دیکھا تو وہ گھبرا گیا اور دکان سے چونا لے کر آیا اور لفظ یا رسول اللہ پر سفیدی پھیر دی تھوڑی دیر سوکھ جا نے کے بعد دیکھا وہ تو پہلے سے بھی زیادہ واضح نظر آنے لگا۔ پھر گیا اور سوپنے لگا۔ آخر سوچ کر تھوڑی لے کر آ گیا اور اس لفظ یا رسول اللہ کو کھودنے لگ پڑا جب کھود چکا تو دیکھا اب تو اور خوبصورت نظر آنے لگا اب اور پریشان ہو گیا۔ اب

جلدی سے گھر گیا اور سینٹ لے آیا پھر اس کو بھرنے لگا۔ جب بھر چکا اب دیکھا کہ وہ تو ساری دیوار میں علیحدہ اور واضح نظر آنے لگ پڑا اب دیکھا اس نے یا رسول اللہ ﷺ کے لئے کیا کچھ نہ کیا لیکن اس نے قرآنی فیصلے اور رحمانی اعلان کو نہ سنا تھا ”ورفعنا لک ذکرک“ ہاں اتنا کرنے سے اسے تو کچھ نہ ملا مگر ہمارے ہاں اور آقا کی بارگاہ میں بے وفا ہونے کا پتہ چل گیا۔ اور اس وقت بھی ہمارا تو درس اتحاد فقط اسی ایک شرط پر ہے بقول قلندرؒ

کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے

یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں

(۳) ﴿یا رسول اللہ ﷺ ندا یہ کلمہ ہے﴾

یا رسول اللہ ﷺ بلاشبہ ندا یہ کلمہ ہے۔ جو غلام اپنے آقا کو پکارنے کے لئے استعمال کرتا ہے۔ بد قسمتی سے جو بے وفا امتی اپنے آقا کو پکارنے کے لئے یا رسول اللہ ﷺ کہنا گوارا بھی نہ کرے اور قیامت کو شفاعت و بخشش کا طلب گار بھی ہو۔ یہ صرف اسکا خیال ہے جو کہ بڑا محال ہے۔ یاد رکھو رب کی بخشش، رب کی رحمت، رب کا فضل اور رب کا کرم یہ سب صدقہ ہے نبی کا۔ اور ان عطاؤں کا اہل بننے کے لئے غلامی رسول کا وسیلہ درکار ہے۔ واستغفر لہم الرسول (النسا ۲۴:۴) درکار ہے۔ لیغفر لک اللہ (فتح ۲:۴۷) والی حضور پر نور ﷺ کی سفارش درکار ہے۔

یاد رکھیں پکارنے کے لیے پانچ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ یا، لہما، جہما، اے، حمزہ مفتوحہ ان کو حروف ندا یہ کہتے ہیں مگر چونکہ فی الوقت ”یا“ کثرت سے استعمال ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ نزاع بنا ہوا ہے۔ سو اسی کو موضوع بحث بنایا گیا۔ کیا نبی کو پکارنے سے چشم پوشی کی جائے! آقا کو بلانے سے انماض برتا جائے۔ نہیں نہیں با وفا امتی اپنے نبی کو ہر دم پکارے گا۔ لا بدی امر ہے۔ جو بھی

نبی کو پکارے گا۔ راہ ہدایت پوچھنے کے لئے پکارے گا۔ توسل کے لئے پکارے گا۔ شفاعت کے لئے پکارے گا۔ جھولی بھرنے کے لئے پکارے گا۔ صراطِ مستقیم کی طلب کرے گا۔ استمداد کے لئے سوال کرے گا۔ کیونکہ نبی اور امتی کا رشتہ دینے اور لینے کا ہے۔ یہ برابری کا رشتہ نہیں ہے۔ اور اگر یہ جو از پیش کیا جائے کہ لفظ ”یا“ تو زندہ شخص کو پکارنے کے لئے استعمال ہوتا ہے اور حضور پر نور ﷺ تو بقول پڑھے لکھے جاہلوں کے معاذ اللہ استغفر اللہ مرکمی میں مل گئے ہیں (تقویہ الایمان مولوی اسماعیل دہلوی) اور صحابہ تو حضور آقا کو زندہ پا کر یا رسول اللہ ﷺ کہتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں۔ تو اس کے لئے مختصر جواب یہ کہ ہم دن میں پانچ نمازیں پڑھتے ہیں۔ پانچوں نمازوں کے تشہد میں السلام علیک لکھا النبی تقریباً 24 مرتبہ پڑھتے ہیں اور ”لکھا“ لفظ ”یا“ سے زیادہ قوی ہے اور یہ حکم قیامت تک کے لئے جاری ہے اور اس میں لفظ استعمال ہو السلام علیک اس میں کبھی عربی قواعد کے مطابق حاضر کے لئے استعمال ہوتا ہے اب بتاؤ یہاں کیا سمجھ کر سلام بھیجو گے۔

دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ کم از کم جہالت کے پردے ہٹا کر حسد و عناد کے خول سے باہر آ کر کلمہ طیبہ کا ترجمہ ہی کر کے دیکھ لیں ملاحظہ ہو۔

لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں ہاں اگر مولوی قاسم نانوتوی کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو پھر بھی خاتمیت محمدی ﷺ میں کچھ فرق نہیں آئے گا۔ (تسخیر الناس) رکھا جائے پھر تو آقا ﷺ کو پکارنا جائز نہیں اور اگر یہ معنی کرو کہ محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور یقیناً ہیں تو پھر یا رسول اللہ پکارنا بلا شک جائز ہے۔ پھر افسوس آج حضور شافع یوم النشور ﷺ کا امتی ہی دوسرے امتی کو نبی کو بلانے اور پکارنے سے منع کر رہا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک کو بلانے کے آداب بھی خود ہی سکھا دیئے ہیں۔ ولا تجہر لہ بالقول

کجہر بعضکم لبعض ان نخبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ (الحجرات) اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔

(۵) ﴿یا رسول اللہ ﷺ حکم الہی کی تعمیل ہے﴾

قرآن شہد ہے کہ اللہ پاک نے اپنے جس نبی کو بھی بلایا تو اسکا نام لے کر بلایا۔ ملاحظہ ہو۔

یا آدم اسکن انت و زوجک الجنة (البقرہ ۳۳۰)
اے آدم تو اور تیری بی بی جنت میں رہو۔

یا نوح امنب بسلمنا (ہود ۴۷)
اے نوح کشتی سے اتر تمہیں ہماری طرف سے سلام

یا ذکریا انا نبشک بغلام اسمہ یحییٰ (مریم ۶)
اے ذکریا ہم تمہیں خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام تجھی ہے۔

یا یحییٰ خذنا الكتاب بقوة (۱۲:۱۰)
اے یحییٰ کتاب کو مضبوط تھام۔

یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض (ص ۲۶)
اے داؤد بے شک ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ کیا۔

وانادیۃ ان یا ابراہیم (الصفت ۱۰۵)
اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم۔

یا عیسیٰ انی متوفیک و دافعک الی (آل عمران: ۵۵)
اے عیسیٰ میں تمہیں پوری عمر تک پہنچاؤں گا۔

اللہ خالق و مالک ہے جس طرح چاہے اپنی مخلوق کو بلائے بلکہ یاد آیا

کو سامنے بٹھا کر دی اور اگر بنی کو ”یا“ کے ساتھ ندا کرنا شرک ہوتا تو صحابہ کرامؓ اسی وقت فرماتے آقا پکارنا تو صرف رب کے لیے ہے پھر یا لہما النبی، یا نبی اللہ، کیوں کہیں۔

معلوم ہوا یا رسول اللہ حکم رب کی صرف تعمیل ہے۔

(۶) ﴿یا رسول اللہ ﷺ کلمہ مستعان ہے﴾

ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حقیقی مستعان اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر مجازی مستعان رسول اللہ ﷺ ہیں۔ یعنی رب تعالیٰ کی عنایات اور رحمتوں کے تقسیم کرنے والے آپ ہیں۔ جس طرح رب تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اس مقام و مرتبہ سے نوازا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ القرآن۔ جس نے بھی رسول کی اطاعت کر لی پس تحقیق اس نے رب کی اطاعت کر لی یعنی یہ بتانا مقصود ہے کہ جس طرح محبوب کی اطاعت کو اپنی اطاعت کہہ کر یہ بتا دیا کہ میری اور میرے محبوب کی اطاعت ایک ہے۔ اسی طرح حضور پر نور ﷺ سے مدد مانگنا خدا ہی سے مدد مانگنا ہے۔ کیونکہ خدا اور رسول ذاتیں دو ہیں۔ مگر ان کی مدد ایک ہے قرآن شاہد ہے۔

کلآنمذھولاً وھولاً من عطا ذبک (بنی اسرائیل) ہم سب کو مدد دیتے ہیں ان کو بھی اور ان کو بھی تمہارے رب کی عطا ہے۔ اس آیت میں ربھم کی بجائے ربک لگا کر واضح کر دیا کہ دیتا میں ہوں مگر محمد ﷺ کے صدقے۔ خدا اور رسول ﷺ دو ذاتیں ہیں مگر ان کا غنی کرنا ایک ہے فرمایا۔

اغناہم اللہ ودرسنولہ (توبہ ۷۳) اللہ اور اس کے رسول نے غنی کر دیا۔ اور جو لوگ ”مصطفیٰ“ کو خدا سے جدا کرنا چاہتے ہیں اور کرتے ہیں ان کے بارے میں وعید ربانی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ویریدون ان یفرقو بین اللہ ودرسلہ اولئک ہم الکفرون

حقاً وہ لوگ جو اللہ سے اس کے رسولوں کو جدا کریں سن لو یہی لوگ بکے کافر ہیں

تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو

اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جاننے کیا ہو

﴿یا رسول اللہ ﷺ لفظ فاروق ہے﴾ (۷)

میں نے ایک بات شروع میں اشارہ کبھی تھی دوبارہ ملاحظہ ہو کہ یا رسول اللہ اور یا اللہ میں فرق کیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ یا اللہ کہنے سے انسان بندے کا ہو جاتا ہے مگر یا رسول اللہ کہنے سے اللہ بندے کا ہو جاتا ہے۔

جب مسلمانوں کے مقابلے میں مسیلمہ کذاب کے ۶۰ ہزار سپاہی تھے اور مسلمانوں کی تعداد کم تھی جب مقابلہ شدت پکڑ گیا اور مسلمان مجاہدین کے پاؤں اکٹھرنے لگے تو فوج کے سپہ سالار خالد بن ولید نے یا محمد کی ندا بلند کی۔ (حافظ ابن کثیر)

کیونکہ نعرہ توحید دونوں طرف تھا نعرہ تکبیر کی آواز دونوں طرف گونجتی تھی لیکن منافقوں اور مومنوں کے درمیان فرق واضح کرنے کیلئے یا محمد ﷺ کی صدا بلند کی گئی ہے۔

اس وقت منافقوں اور مومنوں کے درمیان صحابہ اور مرتدین کے درمیان اسلام اور کفر کے درمیان صرف یہ نعرہ تھا جو کہ فرق دے رہا تھا۔ "محمد فرق بین الناس" (بخاری شریف) محمد ﷺ مومن اور منافق شخص کے درمیان فرق کرنے والا ہے آج بھی منافق اور مومن کے درمیان یا رسول اللہ کی صدا بلند کی جا سکتی ہے تاکہ فرق واضح رہے۔

یا رسول اللہ ﷺ سن کر گردل میں گھٹن محسوس ہو چہرے شریف پر بل اور طبیعت شریف بلا وجہ چل جائے اور جسم میں خواہ مخواہ زلزلہ آجائے تو سمجھ لو کہ یہ مسیلمہ کا حواری ہے ایسے لوگوں کی پہچان خود خدا اپنے قرآن میں بھی کرتا ہے۔

وإذا قبل لهم تحالوا لی ما انزل اللہ والی الرسول یرایت

المنافقین یصلون عنک صدوداً (النساء ۶۱)

اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور رسول کی طرف آؤ تو تم دیکھو گے کہ منافق تم سے منہ موڑ کر پھر جاتے ہیں

نبی کا جو غلام ہے

ہمارا وہ امام ہے

(۸) ﴿یا رسول اللہ ﷺ ایک دعا ہے﴾

یا رسول اللہ تجدید تعلق کی دعا ہے۔ مستقبل کی آرزو ہے کہ یا رسول اللہ اس سال بھی نعتوں کے گجرے درودوں کے تحفے آپ کی بارگاہ مقدسہ میں بھیجوں یا رسول اللہ اس سال بھی اللہ تعالیٰ میلاد النبی کا مہینہ میری قسمت میں لکھ دیتے تاکہ اس سال بھی گلی گلی پھر کر آپ کے عشق کی سوغات اور محبت کے پیغام اور زیادہ عام کر سکوں یا رسول اللہ اس سال بھی در اقدس کی حاضری نصیب ہو۔

(۹) ﴿یا رسول اللہ ﷺ حرفِ طلب ہے﴾

یا رسول اللہ تمہید ہے کچھ طلب کرنے کی جس میں مدعا پوشیدہ ہے۔ شاید سائل کو مانگنے کا طریقہ نہیں آ رہا۔ اور جب سائل کو مانگنے کا طریقہ وسیلہ آیا تو نبی کی غلامی مانگی، سائل کہتا ہے۔ اسئلک مرافقتک فی الجنة (مسلم شریف) حضرت ربیہؓ نے جنت میں حضور ﷺ کی رفاقت اور غلامی کا سوال کیا پھر آقا نے فرمایا او غیر ذلک اور بھی کچھ مانگ، اسی مفہوم کو شمس الشعراء جناب صاحبزادہ پیرسید نصیر الدین نصیر گولڑوی نے اپنے انداز میں یوں بیان کیا۔

سلطانِ مدینہ کی زیارت کی دعا کر

جنت کی طلب چیز ہے کیا اور بھی کچھ مانگ

لہذا حضور ﷺ سے مانگتے ہوئے یہ نہ سمجھا جائے کہ فقط رسول سے

مانگ رہا ہوں بلکہ یہ سمجھو کہ خدا سے مانگ رہا ہوں۔ محمد کے واسطے کے ساتھ کیونکہ

خدا اور رسول دونوں ذاتیں جدا ہیں مگر دونوں کا عطا کرنا ایک ہے۔ دونوں کا طلب کو پورا کرنا ایک ہے۔ قرآن کہتا ہے۔

انما ولیکم اللہ ورسوله (مانہ ۵۵) بے شک تمہارا مددگار اللہ اور اس کا رسول ہے کیونکہ واحد مصطفیٰ کی ذات ہے جس کا تعلق ادھر خدا سے بھی اور ادھر مخلوق سے بھی۔ معلوم ہو خدا واسطہ رسالت محمدی کے بغیر اپنے بندوں سے مخاطب نہیں ہوتا اور ادھر مخلوق واسطہ رسالت محمدی کے بغیر خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتی۔ اسی لئے آقا نے ارشاد فرمایا۔ ”انما انا قاسم واللہ بعطی“ (حدیث) بے شک میں ہی تقسیم کرتا ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے۔ اسی مقام پر صاحبزادہ پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ گولڑوی پکاراٹھے۔

دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے
یہ بحث نہ کر ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ

(۱۰) ﴿یا رسول اللہ ﷺ﴾ میں سلام پہنایا ہے

یہ درود سلام کا مخفف ہے کہ آقا میرا سلام قبول ہو۔ لہذا یا رسول اللہ کہنا

خدائی حکم

”وسلو تسلیما“ کی تعمیل ہے۔ یہ الصلوٰۃ والسلام کا کلمہ ہے۔ انظر حالنا کا ابتدائیہ ہے اور یہ السلام علیک لکھا النبی کا مترادف ہے۔ اسی لیے تو مولوی رشید احمد گنگوہی کو بھی کہنا پڑا کہ

یا رسول اللہ قبر کے دور یا نزدیک سے درود شریف سمجھ کر کہے تو درست ہے۔

(مولوی رشید احمد گنگوہی فتاویٰ رشیدیہ صفحہ 334)

(۱۱) ﴿یا رسول اللہ ﷺ﴾ کیا ہے

یا رسول اللہ ایک سوچ ہے۔ آقا سے اظہار عقیدت کی۔ اک فکر ہے امام الانبیاء کو متوجہ کرنے کی۔ اک تحریک ہے شافع محشر سے عقیدت کی۔ ایک عقیدہ

ہے سردارِ دو جہاں سے اظہارِ غلامی کا۔ ایک پہچان ہے سرورِ کونین سے وفاداری اور بے وفائی کی۔ ایک استعارہ ہے رسولِ مختار سے استمداد کا۔ اک کنائے ہے ساقی کوثر سے خیراتِ طلب کا۔ اک اشارہ ہے ختمِ الرسل سے انظر حالنا کا۔ اک علامت ہے نسبتِ رسول کی۔ اک ابتداء ہے وارثی شوق کی۔ اک نعرہ ہے ربطِ رسالت کا۔ اک وسیلہ ہے تعلق باللہ کا۔ اک وظیفہ ہے مریضانِ محبت کا۔ اک طلب ہے نورِ مجسم سے نگاہِ کرم کی۔ اک باوقامتگی کے دل کا درد ہے۔ ایک بنائے اتحاد امت ہے۔ اک سفر ہے عروج کی طرف۔ ایک رم جھم ہے ابر کرم کی۔ اک علاج ہے لا علاجوں کا۔ اک سکون ہے بے قراروں کا۔ اک بلاوا ہے نظامِ رحمت کو متوجہ کرنے کا۔

اب ٹھہریں تھوڑی دیر کے لئے یہ سوچنا ہے کہ رسول کی ذات وسیلہ بن سکتی ہے یا نہیں۔ اور اگر بن سکتی ہے اور یقیناً بن سکتی ہے۔ تو وسیلہ بغیر خدا کے نہیں ہوگا۔ جس طرح کسی کام میں بھی شخص کو وسیلہ بنائیں تو اسکو آواز دیں گے یا پکاریں گے۔ بغیر پکارنے اور آواز دینے کے وہ وسیلہ نہیں بنے گا۔ اور بغیر وسیلے سے کام نہیں ہوگا۔

علامہ ابن قیم کہتے ہیں۔

لا سبیل الی السعادة والفلاح لافی الدنیا ولا فی الاخرة
علی ابدی الرسل ولا ینال رضا اللہ الا السبۃ الاعلیٰ ایدہم۔
(ذوالمعاذ ص ۲۷)

دنیا و آخرت میں سعادت و فلاح رسولانِ گرامی کے ہاتھوں سے ہی مل سکتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی ان ہی کی بدولت میسر آسکتی ہے۔

﴿رسول اکرم ﷺ قبل از پیدائش وسیلہ﴾
حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا۔

لما افتقر آدم الخطيئة قال يا رب اسالك بحق محمد لما غفرت لي فقال الله يا آدم وكيف عرفت محمد ولم اخلقه قال يا رب الما خلقتني بيدك ودفحت في من دوحك دفعت راسي فرايت علي قوائم العرش مكتوب بالا اله الا لله محمد رسول الله فعلمت انك لم نضف الي اسمك الا اصب الخلق اليك فقال الله صدقت يا آدم حب الخلق النى ادعنى بحقه غفرت لك ولولا محمد ما خلقتك هذا حديث صحيح الاسناد -

(المستدرک، کتاب التاريخ)

جب آدم سے لغزش سرزد ہوئی تو انہوں نے دعا مانگی اے میرے رب میں تجھ سے محمد ﷺ کے وسیلہ سے دعا مانگتا ہوں کہ میری مغفرت فرما۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم نے محمد ﷺ کو کیسے پہچانا حالانکہ میں نے انہیں ابھی پیدا بھی نہیں کیا۔ عرض کیا میرے رب جب تو نے میرا جسم اپنے دست قدرت سے بنایا اور میرے اندر روح پھونکی تو کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کے پایوں پر لا اله الا اللہ محمد رسول لکھا ہوا پایا۔ میں نے جان لیا کہ نے اپنے نام کے ساتھ اس ہستی کا نام لکھا ہوا ہے جو تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم تو نے سچ کہا وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے۔ تم مجھ سے ان کے وسیلے سے دعا مانگو میں نے تمہاری مغفرت فرمادی اگر محمد ﷺ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔

اگر نام محمدؐ رانیا وردے شفیع آدم

نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجات

علامہ ابن قیم لکھتے ہیں۔

"عن ابن عباسؓ کانت یهود تقاتل غطفان
فلما التقوه زمت یهود خیبر فعافت الیہود لہذا
الدعا فقالت الہم انا نسالك بحق محمد ن النبی
الامی الذی وعدتنا ان تخرجه لنا فی آخر
الزمان الا نصرتنا علیہم"

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے
ساتھ حالت جنگ میں رہتے تھے ایک مقابلے میں یہودی شکست کھا گئے تو انہوں
نے یہ دعا مانگی اے اللہ ہم تجھ سے نبی امی محمد ﷺ کے طفیل دعا مانگتے ہیں۔ جنہیں تو
نے آخری زمانے میں ہمارے پاس بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ تو ہمیں غطفان کے خلا
ف ہماری مدد فرما۔

﴿حیات ظاہری میں رسول اللہ ﷺ سے توسل﴾

امام طبرانی معجم صغیر میں راوی ہیں کہ حضرت ام المومنینؓ فرماتی ہیں۔

انما سمعت رسول اللہ يقول فی متوضئی لیلایک
لیک نصرت نصرت قلت یا رسول اللہ سمعتک
تقول فی متوضعک لیک لیک نصرت نصرت
کانک تکلم انسان فعل کان معک احدا فقال
ہذا راجز بن کعب يستعر خنی ویزعمر ان
قریشا اعانت علیہم بنی بکر قالت فاقمنا تم
صلی الصبح بالناس فسمعت الراجز نیشلہ۔

حضرت میمونہؓ فرماتی ہیں کہ رسول اکرمؐ نے وضو فرماتے ہوئے تین
مرتبہ لیک کہی اور تین مرتبہ نصرت فرمایا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں نے تین

مرتبہ بلیک اور تین مرتبہ نصرت فرماتے ہوئے سنا۔ جیسے آپ کسی انسان سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ کیا وضو خانے میں کوئی آدمی آپ کے ساتھ تھا؟ آپ نے فرمایا یہ بنو کعب کا رجز تھا جو مد کیلئے پکار رہا تھا اور اسکا کہنا تھا کہ قریش نے ان کے خلاف بنو بکر کی امداد کی ہے۔ تین دن کے بعد آپ نے صحابہ کو صبح کی نماز پڑھائی تو میں نے سنا رجز خواں اشعار پیش کر رہا تھا۔

(شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی مختصر سیرت الرسول مکتبہ سلفیہ لاہور ص ۳۳۳)

یہ بھی صحابی ہیں جنہوں نے تین دن کی مسافت سے بارگاہ رسالت میں فریاد کی اور انکی فریاد سنی گئی۔ معلوم ہوا صحابہ کرام دور سے بھی اپنے آقا کو مدد کے لئے پکارتے تو آقا نہ صرف آپکی آواز سنتے بلکہ امداد بھی فرماتے۔ جبکہ آقا سائل کے سامنے موجود نہ ہوتے۔

﴿بعد از وصال رسول اللہ ﷺ سے تو سئل﴾

☆ امام قسطلانی ابن مزیر سے نقل کرتے ہیں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو حضور پر نور کے وصال کی اطلاع ملی تو روتے ہوئے حاضر ہوئے اور چہرہ انور سے کپڑا اٹھایا اور یوں عرض کرنے لگے۔

ولو ان موتك كان اختصار الجدل لموتك بالنفوس

ذکرنا یا محمد عند دیک ولنکن من بالک

اگر آپ کی موت میں ہمیں اختیار دیا جاتا تو ہم آپ کے وصال کے لئے اپنی جانیں قربان کر دیتے حضور اپنے رب کے پاس ہمیں بھی یاد کرنا اور ہمارا خیال ضرور رکھنا۔

☆ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر کا پادشہ مبارک بن ہو گیا۔

فقال له رجل اذکر احب الناس الیک فقال

یا محمد فکانما نشط من عقال

(ابوزکر یاسینی بن اشرف النودی الاذکار ۲۷۱)

ایک شخص نے آپ سے کہا اس شخص کو یاد کرو جو تمہیں تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو انہوں نے کہا یا محمد بن کا پاؤں اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ یہاں تک تو یہ ثابت ہو گیا کہ جہاں حضور پر نور کو جس طرح قبل از پیدائش اور حیات ظاہرہ میں وسیلہ ٹھہرایا گیا۔ اور جائز بھی ہو اسی طرح مذکورہ دو جلیل القدر اصحاب کی عبارات سے یہ ثابت ہوا کہ بعد از وصال بھی حضور علیہ السلام کو وسیلہ ٹھہرانا اور لفظ ندا 'یا' سے پکارنا جائز ہے۔ اب جب 13 صدیاں قبل ایک کام جائز تھا اور کوئی فتویٰ لگانے والا نہ تھا تو چودھویں صدی میں آخر پڑھے لکھے جاہل مفتیان نے اس کو کیوں ناجائز قرار دے کر فتووں میں پینا شروع کر دیا۔

اب سوچنا یہ ہے کہ کیا یہ حضرات واقعی قرآن و سنت کے مطابق یہ کام کر رہے ہیں۔

یا قرآن و سنت کے خلاف طاغوتی و سامراجی سازش کو کامیاب بنانے کے درپے ہیں ہاں اس بات کی وضاحت کرنا نہ صرف فائدہ مند ہوگا۔ بلکہ ان پڑھے لکھے کم خرد حضرات کی حقیقت بھی واضح ہوگی اور ہاں سینے وہ سازش یہ ہے کہ مسلمان کے سینے سے کسی نہ کسی طریقہ سے محبت رسول کو نکال دیا جائے۔ اور یہ ان حضرات کا صرف خیال ہے جو کہ بڑا محال ہے۔ ورنہ جب غلامانِ مصطفیٰ کا قافلہ برسر میدان نکلا تو صرف اور صرف یہ کہتے ہوئے کہ

غلامانِ محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے

یہ سرکٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے

ان کا قلع قمع کر دیں گے۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے لئے کیا حکم ہے۔ کیا قرآن و حدیث سے

وسیلہ پکڑنا ثابت ہے یا نہیں۔ کیونکہ آج کل تو الا ماشاء اللہ ہر کام قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہوا ہر کسی کو نظر آتا ہے مگر کوئی قرآن و سنت کا نہ ثبوت مانگتا ہے اور نہ ہی اس پر فتویٰ ٹھونکتا ہے۔ لیکن جب بھی عظمت مصطفیٰ ﷺ اور عظمت اولیاء کرام کی بات چلتی ہے تو فوراً قرآن و حدیث سے ثبوت طلب کیا جاتا ہے اور ناجائز بدعت اور شرک کے فتووں سے نوازا جاتا ہے۔ تو آئیے پڑھیے۔ سنئے اور جھوم جھوم اٹھیے ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وابتغوا الیہ الوسیلہ“ (ماعدہ ۳۵)

اللہ کی طرف جانے کے لئے وسیلہ تلاش کرو۔ اس آیت کے معانی ہوئے کہ اللہ کا قرب پانے کیلئے اللہ کی عطا اللہ کی رحمت اللہ کا فضل اور اللہ کی امداد حاصل کرنے کے لئے وسیلہ چاہیے۔ اور وسیلہ بقول شاہ اسماعیل شہید کے کبھی نیک اعمال اور کبھی نیک لوگ مراد لئے گئے۔ (صراط مستقیم) تو اگر نیک اعمال اور نیک لوگ وسیلہ بن سکتے ہیں تو آقا علیہ السلام کی ذات یہ حق بدرجہ اولیٰ رکھتی ہے۔ اب وسیلہ کے لئے پکارنا پڑتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب مصطفیٰ کریم ﷺ کو وسیلہ ٹھہرایا جائے اور آواز دی جائے یا پکارا جائے تو کیسے اور کس طرح پکارا جائے کیونکہ ان کا مقام تو یہ ہے اگر جلیل القدر فرشتہ جبرائیل امین بھی ان کے گھر آجائے تو اسے بھی نام لے کر آواز دینے کی اجازت و جرات نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے دیکھا کہ جب میرے بندے اور میرے محبوب ﷺ کے امتی در محبوب ﷺ پر اپنی درخواست پیش کرنے اور میرے حکم کے مطابق یعنی

ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک“ (النساء ۶۴) (الاخر)

اور ادھر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے پاس حاضر

ہوں۔

جب بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہوں تو کہیں ان کے نام مبارک کے

ساتھ ان کو فقط اپنے جیسا یا اپنا بڑا بھائی تصور کرتے ہوئے پکار کر یا آواز دے کر بے ادبی نہ کر ڈالیں۔ اس لئے پہلے تو اپنے بندوں کو در محبوب ﷺ پر حاضر ہونے کا سلیقہ بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم بارگاہِ مصطفوی ﷺ میں حاضر ہو تو پہلے صدقہ دو اور پھر جب بارگاہِ رسول مقبول ﷺ میں پہنچ جائیں تو پھر یہ قانون اور ضابطہ بنا کر قرآن کی صورت میں پیش کر ڈالا۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ

(الحجرات: ۲)

کہ میرے محبوب کو اس طرح آوازیں نہ کنا جس طرح تم ایک دوسرے کو بلا تے ہو۔

اب ذرا عقل و عناد کے پردے اٹھا کر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اپنے پیارے رسول مقبول ﷺ کو اے عباس کے بھتیجے، اے عبداللہ کے بیٹے، اے بشر اے بڑے بھائی، اے ہمارے جیسے انسان یا اس طرح کے کسی اور لقب سے پکار سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آیت مذکورہ نازل کر کے بے ادبی کے ساتھ پکارنے کے سارے دروازے بند کر دیئے ہیں۔

☆ بلکہ اسی آیت کی تفسیر میں علامہ امام احمد صاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

لَا تَنَادُوا بِاسْمَةِ فَتَقُولُوا يَا مُحَمَّدٌ وَبِكُنْيَتِهِ فَتَقُولُوا يَا

أَبَا الْقَاسِمِ بَلْ نَادُوا بِالْتَعْظِيمِ وَلَا تَكْرِيْمِ وَالتَّوْقِيْرِ

بَانَ تَقُولُوا يَا رَسُولَ اللّٰہِ۔ یٰاَبِی اللّٰہِ، یٰاِمَامَ الْمُرْسَلِیْنَ۔

ترجمہ! یعنی حضور پر نور ﷺ کا نام کنیت لے کر نہ پکارو بلکہ ان کو تعظیم و

تکریم اور توقیر کے ساتھ پکارو یعنی اس طرح پکارو یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا امام المرسلین۔

☆ تفسیر کبیر میں ہے

لا ینادوا کما ینادی بعضکم بعضاً لا تقولوا یا محمد یا ابا القاسم ولكن قولوا یا رسول اللہ یا نبی اللہ
ترجمہ: نبی کریم ﷺ کو اس طرح نہ پکارو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو یوں نہ کہو یا محمد ﷺ یا ابا القاسم! بلکہ یوں عرض کرو یا رسول اللہ یا نبی اللہ۔

☆ ابو محمد کی فرماتے ہیں ای لا تسابقوا بالكلام ولا تفضوا بالخطاب ولا تنادوا باسمه ندا بعضکم لبعضکم ولكن عظموا ووقروا ونادوا باشرف ما یحب ان ینادی به یا رسول اللہ یا نبی اللہ

ترجمہ! یعنی کلام میں نبی کریم ﷺ سے سبقت نہ کرو اور آپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے سختی سے بات نہ کرو اور نہ ہی آپ کا نام لے کر پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو بلکہ تعظیم و توقیر اور اشرف ترین اوصاف سے آپ کو ندا کریں جن سے ندا کرنا آپ نے پسند فرمایا اور یوں کہیں یا رسول اللہ ﷺ یا نبی اللہ ﷺ اور جس طرح یہ حکم آقا علیہ السلام کی حیات میں تھا اسی طرح یہ حکم بعد از وصال بھی ہوگا۔

چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی پوری تاریخ زندگی کا مطالعہ کرو۔ صحابہ کرام میں رسول مقبول ﷺ کے طرح طرح کے قرہی رشتہ دار بھی موجود تھے۔ حضرت عباس اور حضرت حمزہؓ چچا تھے۔ حضرت علیؓ چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت صدیق اکبرؓ اور حضرت عمر فاروقؓ سر تھے۔ حضرت عثمانؓ داماد تھے۔ مگر خدا کی قسم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اسکی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کبھی حضرت عباس اور حضرت حمزہؓ نے رسول کو اے بھتیجے کہ کر پکارا ہو۔ حضرت علیؓ نے اے بھائی کہ کر پکارا ہو یا حضرت ابو بکر اور حضرت فاروق اعظم نے اے

داماد کہہ کر پکارا ہو۔ اور نہ ہی ابن عبداللہ کہہ کر پکارا۔ اسی طرح کبھی بھی کسی نے بھی نہ یا محمد کہہ کر آواز دی اور نہ ہی یا ابالقاسم کہہ کر آواز دی۔

آخر معزز قارئین کرام! اتنی رشتہ داریاں ہونے کے باوجود رشتوں کے القابات سے کیوں نہ پکارا گیا۔ صرف ایک ہی وجہ نظر آتی ہے کہ محبت رسول اور عشق رسول میں وہ اتنے مستغرق تھے کہ انہیں بس اتنا یاد تھا کہ ہم امت مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ ہیں۔ اور ہم پلہ اور برابری کا تو وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ یہاں پر مجھے ایک روایت یاد آرہی ہے یہاں اس کا بیان کرنا بھی فائدہ سے خالی نہیں۔

ایک مرتبہ کسی صحابی نے حضور ﷺ کے پیارے چچا جان حضرت عباسؓ سے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضرت محمد ﷺ بڑے ہیں۔ آپ نے جواب دیا کہ بڑے تو حضور ﷺ ہی ہیں بس فرق یہ ہے کہ پیدا میں پہلے ہو گیا تھا۔

ذرا غور فرمائیں کہ یہاں بات بڑی واضح تھی کہ عمر میں کون بڑا ہے مگر آپ نے اپنی عمر کی بڑھائی کو بھی حضور ﷺ کے عزت و وقار پر قربان کر دیا۔ اس کو مزید آسان بنانے کے لیے ایک مثال کے ساتھ سمجھانا مناسب سمجھتا ہوں۔ کہ

جب وقت نماز امام مصلیٰ امامت پر امامت کیلئے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے مقتدیوں میں کبھی کبھی امام کا باپ، امام کا دادا، امام کا بھائی، امام کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ تو مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نیت کے وقت صرف یہی کہیں گے۔

”بھذا الامام“ پیچھے اس امام کے، اب اگر باپ یہ کہے کہ پیچھے اپنے بیٹے کے یا دادا یہ کہے کہ پیچھے اپنے پوتے کے یا بھائی یوں کہے کہ پیچھے اپنے بھائی کے تو کیا اقتدا کی نیت درست ہوگی ہرگز نہیں اقتدا اسی وقت درست ہو

ایمان کی علامت

کیوں نہ ہو اسکو امام ہی کہنا پڑے گا۔

حضور پر نور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کا امام بلکہ امام الاولین والاخرین بنا کر رسالت کے مصلے پر کھڑا کر دیا تو اب سارے عالم کے لئے چاہے وہ رسول کے کتنے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو اب وہ بیٹا، بھتیجا، پوتا، بھائی، بشر بلکہ آپ کے اسم مبارک اور کنیت کے ساتھ بھی نہیں پکاریں گے بلکہ جب بھی پکاریں گے تو یہی کہیں گے اے اللہ کے رسول جسے عربی میں یوں پڑھا جائے گا۔ یا رسول اللہ ﷺ۔ اے اللہ کے نبی جیسے عربی میں یا نبی اللہ پڑھا جائے گا۔

اس طرح ایک اور مثال یہ ہے۔
کہ ایک شخص ہائی کورٹ کا جج ہے وہ ضرور کسی کا بیٹا کسی کا باپ کسی کا بھائی کسی کا پوتا ہوتا ہے مگر جب وہ کرسی عدالت پر بیٹھتا ہے تو وہ صرف جج بن کر بیٹھتا ہے تو اب ہر شخص چاہے اسکا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو از روئے قانون جج صاحب ہی کہہ کر پکارنا پڑے گا۔ اور اگر عدالت کے اندر باپ نے بیٹا دادا سے پوتا، بھائی نے بھائی کہہ کر پکارا تو ان پر نہ صرف توہین عدالت کا مقدمہ چلے گا بلکہ سزا بھی ہوگی۔

بلاشبہ و مثال ہمارے آقا ﷺ کو رب العالمین نے رسالت کے عظیم عہدہ سے سرفراز فرما کر کرسی رسالت پر اور کرسی شفاعت پر بٹھا دیا تو اب کوئی رشتہ دار ہو غیر رشتہ دار ہر ایک کو یا رسول اللہ ﷺ یعنی اے اللہ کے رسول کہنا پڑے گا۔ اور اگر کسی نے ان کو بھائی، بھتیجا، بشر یا اپنے جیسا کہا تو نہ صرف گستاخی

رسول ﷺ کا مقدمہ چلے گا بلکہ رب کی طرف سے سزا سنائی جائے گی جو کہ قرآن کے اندر مقرر کر دی گئی ہے۔

ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون
کہ پھر تمہارے اعمال ضبط کر لئے جائیں گے۔ اور تمہیں کانوں کان خبر نہ ہوگی۔

برادرانِ ملت ذرا غور سے سوچئے کہ اب ان علماء و مصنفین حضرات کا کیا حال ہوگا جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر صراحتاً لکھا ہے کہ کسی نبی اور ولی کو دور سے یہ سمجھ کر پکارنا کہ ہماری آواز سن لیتے ہیں۔ یہ شرک ہے اور کہنے والا مشرک ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ مسلمان مسلمان کو مشرک کرنے کے کیوں درپے ہے۔ حالانکہ کتب احادیث کا مطالعہ کیا جائے تو یہ حدیث پڑھ کر ذہن روشن ہو جاتا ہے۔

کہ "والله ما اخاف بعدى ان تشرکوا و كما قال
عليه السلام"

کہ مجھے اللہ کی قسم یہ خطرہ نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے۔
مجھے ان لوگوں کی کم عقلی پر غصہ بھی آتا ہے اور پھر ایسے لکھے پڑھے جاہلوں کی جہالت پر ہنسی بھی آتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کسی آواز کو دور سے سننا یہ صرف رب کی صفت ہے۔ اب جو رب کی صفت میں کسی کو شریک کر یگا وہ مشرک ہوگا۔ میرے خیال میں اگر یہ حضرات قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرتے تو اپنے اس وہم و کم علمی کا ازالہ کر سکتے تھے چلیں انکی اس تشنگی کو بغیر طول دیئے قرآن و سنت کی ایک دور روایات سے دور کیے دیتا ہوں سورۃ نمل میں ہے کہ حضرت سلیمانؑ اور ان کا لشکر وادی نمل کے قریب پہنچا تو چیونٹیوں کی سردار منہ رانے باقی چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ

حضرت سلیمانؑ کے لشکر کے قدموں کے نیچے روندی نہ جاؤ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمانؑ اس وقت تین میل کے فاصلہ پر تھے قرآن پاک میں ہے ”فتبسم ضاحکاً من قولها“

(نمل پ 19)

ترجمہ۔ آپ نے تبسم فرمایا اسکی اس بات پر۔ ”من قولها“ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ حضرت سلیمانؑ نے 3 میل کے فاصلہ پر اسکی آواز سنی پھر مسکرائے معلوم ہوا کسی کا دور سے سننا صرف رب تعالیٰ ہی کی صفت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو بھی یہ طاقت وصفت عطا فرمائی ہے۔ ایک روایت ملاحظہ فرمائیں جسکو مسلم شریف نے نقل کیا ہے۔ ”حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر خدمت تھے۔ اچانک آپ نے ایک آہٹ سن کر ہم سے پوچھا۔

”اندررون ما هذا قال قلنا الله ورسوله اعلم“

اے میرے صحابہ تم جانتے ہو کہ یہ آہٹ کیسی تھی صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ اور اسکا رسول ﷺ ہی بہتر جانتے ہیں۔

فقال هذا حبر دمی بقہ فی النار منذ سبعین خریفا
فہو یہوی فی النار الان حتی اتہی الی فعرھا (مسلم شریف)
ترجمہ۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ اس آواز پتھر کی ہے جو کہ آج سے ستر سال قبل دوزخ میں پھینکا گیا تھا اور اب وہ جہنم کے نیچے پہنچا ہے ”خود اندازہ لگائیں رب تعالیٰ نے کتنی طاقت سے اس پتھر کو پھینکا تھا ستر سال لگے اسے یہ مسافت طے کرنے میں اتنے دور کی آواز کو ہمارے آقائے سماعت فرمایا۔

یہ روایات نصیہ و صحیحہ بتاتی ہیں کہ کسی کا دور سے سننے سے شرک لازم

نہیں آتا اور نہ ہی یہ صرف رب تعالیٰ کی صفت ہے بلکہ رب تعالیٰ نے اپنے خاص و مقرب بندوں کو بھی اس صفت سے نواز ہے۔

حالانکہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ قرآن مجید کی کسی آیت سے یہ ثابت کر دیں کہ رب تعالیٰ نے خود کہا ہو کہ میں بندے سے بہت دور ہوں اگر یہ لکھا کہیں سے مل جاتا پھر تو مانتے کہ دور سے آواز سننا صرف رب کی صفت ہے۔ قرآن کا مطالعہ کیا تو ہمیں تو صرف یہ لکھا ہوا ملا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”ونحن اقرب الیہ من جبل الودید“ (پ 17 الانبیاء)
یعنی ہم تو بندوں کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر فرمایا (واذا سئلک عبادی عنی فانی قریب) (پ ۱۲ البقرہ)

یعنی اے محبوب ﷺ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں آپ سے تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں قریب ہوں۔

سو چنانہ یہ ہے کہ جب رب ہر کسی کے قریب ہے تو پھر کسی شخص کی دور سے آواز سننا چہ معنی کر دے؟ ہاں ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ابھی ہم اس سے بہت دور ہیں۔ بلکہ در ہو چکے ہیں اور اتنے دور ہو گئے ہیں کہ اب ہمیں رب دور نظر آنے لگا ہے۔ حالانکہ وہ تو ہمارے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر ان آیات پر غور کیا جائے تو پھر تو قریب سے سننا رب کی صفت ہوئی اب چاہیے تو یہ قریب سے سننے والوں کو بھی نہ پکارو ورنہ شرک لازم آئے گا۔ تو پھر تو نہ کسی قریب والے کو پکارو اور نہ کسی دور والے کو پکارو اور ساری مخلوق کو بہر تصور کر کے خود گونگے بن کر بیٹھ جاؤ۔

مسلمانو! سوچنے کا مقام ہے خوب سوچیے بلکہ سب مل کر سوچیے کہ ہم ہزاروں میل دور بیٹھنے والے شخص سے یہ سمجھ کو کہ وہ سن رہا ہے۔ ٹیلی فون پر گفتگو

کرتے ہیں۔ اور اسکو آواز دیتے ہیں پکارتے ہیں تو کیا ایسا کرنے سے یا یہ سوچنے سے کہ وہ ہماری آواز سن رہا ہے ہم مشرک ہو جائیں گے۔ یقیناً ہرگز نہیں۔

تو اگر بجلی کی طاقت سے ہزاروں میل دور بیٹھنے والا ہمارے عقل کی پیداوار ٹیلی فون کے ذریعے ہماری پکار سن سکتا ہے۔ تو کیا نبی اپنی نبوت کی طاقت اور ولی اپنی ولایت کی خداداد طاقت سے دور کی آواز نہیں سن سکتا۔ کیا معاذ اللہ بجلی اور ٹیلی فون کی طاقت نبی اور ولی کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔

یہاں ایک بات طبعاً کہہ دیتا ہوں کڑوی ضرور ہوگی۔ مگر سچی بات ہے کہ سچ کہنے سے کبھی گریز نہیں کرتا۔ بات یہ ہے کہ اگر پاکستان میں بیٹھ کر اپنے مدرسے کے چندہ کے لئے کسی دوسرے ملک میں کسی کو ٹیلی فون پر امداد کیلئے پکاریں، مدد چاہیں، اور تمہاری پکار سن کر تمہاری مدد بھی کر دے تو کوئی شرک لازم نہیں آتا تو میں بڑے یقین سے کہتا ہوں کہ غلام مصطفیٰ ﷺ دنیا کے کسی کو نے میں بیٹھ کر محبت کے ساتھ عشق کی زبان سے وجدان کی کیفیت میں سوزِ مستی کی آواز کے ساتھ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اگر اپنے آقا و مولیٰ تا جدارِ مدینہ سرور قلب و سینہ مبارک ﷺ کو پکارے تو آقا اسکی آواز سن بھی لیتے ہیں اور مدد بھی فرماتے ہیں۔ مگر ہاں یاد رکھیے صرف پکارنے میں ادب ملحوظ خاطر ہو اور نہایت کیفِ مستی کے عالم میں ڈوب کر بس صرف پیار سے یہ کہو۔

یا رسول اللہ انظر حالنا

یا حبيب الله اسمع قائلنا

اننا في بحر غم مصرق

خذيدي سهلنا الشغالنا

ان اشعار کو بھی قرآن سے اخذ کیا گیا ہے دیکھیں جب حضور ﷺ

صحابہ اکرامؓ کو تعلیم دیتے انہیں جو بات سمجھ نہ آتی فرماتے، دراعنا یا رسول اللہ اس کا مطلب تھا یا رسول اللہ ہمارے حال کی رعایت فرمائیے یعنی کلام کو ذرا دوبارہ دوہرا دیں لیکن یہودیوں نے اس کو غلط رنگ دیا ان کی اس سازش کو حضرت سعد بن معاذؓ نے بھانپ لیا تھا اور رنجیدہ ہو کر جب بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہی ہوئے تھے کہ رب تعالیٰ نے (راعنا) کہنے کی ممانعت فرمادی اور یہ آرڈر جاری کر دیا۔

”یا ایہا الذین امنوا تقولوا دعنا وقولوا النظرنا
واسمعوا“ (پ۔ البقرہ)

ترجمہ۔ اے ایمان والو! راعنا نہ کہو اور یوں عرض کرو کہ حضور ﷺ ہم پر نظر رکھیں اور سنو شاعر نے غالباً اسی ”انظرنا“ کو سامنے رکھتے ہوئے پوری رباعی لکھ ڈالی۔

فریاد امتی جو کرے حال زار کی
ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو
اگر بے ادبی کے ساتھ پکارا تو پھر رب تعالیٰ کے اس اعلان کی طرف
توجہ دو جو فرمایا۔

”ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون“

(الحجرات ۲۰)

اس لئے میں کہتا ہوں۔

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاک اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ تاری ہے
ہاں برسبیل تذکرہ یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ جس نے فقط آدم
کی بے ادبی کی وہ تو جنتی ہو کر بھی جہنم میں چلا گیا اور قیامت تک شیطان بنا کر

روند دیا گیا۔ اور جو خاتم الانبیاء جناب حضرت محمد ﷺ کی بے ادبی یا گستاخی کرے اور بغیر دیکھے جنت میں جانے کا دعویٰ کرے یہ محض اس کا خیال ہے۔ معزز قارئین کرام بات کافی طول پکڑ گئی ہے لہذا اب جس مقصد کے لئے اتنی طویل بحث کو چھیڑا یعنی اپنے محبوب و مکرم آقا ﷺ کو لفظ ”یا“ کے ساتھ ندا کر سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ چند دلائل قرآن و حدیث اقوال صحابہ و محدثین و علما کرام پیش خدمت ہیں ملاحظہ ہوں۔

﴿نبی پاک ﷺ کو ندا کرنا سنت الہیہ ہے﴾
(دلیل نمبر ۱)

یا ایہا النبی انق اللہ ولا یطیع الکفرین
اولمنفقین۔ (پ ۲۱ سورۃ الاحزاب)

ترجمہ: یا نبی اللہ! اللہ کا یونہی خوف رکھنا اور کافروں اور منافقوں کی نہ سننا۔
(دلیل نمبر ۲)

یا ایہا الرسول (المائدہ) یعنی یا رسول اللہ
یہاں پر یہ بات درج کر دینا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ اگر کوئی شخص سوال کر ڈالے کہ قرآن کے ان دو الفاظ (یا ایہا النبی اور یا ایہا الرسول) کے معنی تو صرف یا نبی اور یا رسول کے بنتے ہیں۔ یا نبی اللہ اور یا رسول اللہ کیسے ہو گیا۔ تو عرض یہ ہے کہ چونکہ رب تعالیٰ خود اپنے محبوب کریم ﷺ سے مخاطب ہے لہذا رب نے بڑے ادب کے ساتھ کہا (یا رسول، یا نبی) لیکن جب اتنی اپنے نبی کو پکارے گا تو اسی طرح کہے گا یا رسول اللہ (اے اللہ کے رسول) یا نبی اللہ (اے اللہ کے نبی)۔

(دلیل نمبر ۳)

یا ایہا المدرس اے بالاپوش اوڑھنے والے

(دلیل نمبر ۴)

یا ایہا المزمحل اے جھر مٹ مارنے والے

(دلیل نمبر ۵)

ترمذی شریف میں ہے کہ ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ نبی پاک ﷺ جب معراج شریف پر تشریف لے گئے تو کملی والے آقا نے اپنے پروردگار کو بہترین حالت میں دیکھا خدا تعالیٰ نے نبی ﷺ سے پوچھا

”یا محمد هل تددی فیہم یختصر

الملائنا علی قلت نعم فی الکفارات (الآخر)

”یا محمد کیا تو جانتا ہے فرشتے کس چیز پر بحث کر رہے تھے تو آپ ﷺ نے عرض کیا کہ ہاں مولا میں جانتا ہوں وہ گناہوں کے کفاروں پر گفتگو کر رہے تھے۔

(دلیل نمبر ۶)

اسی واقعہ کو شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ نے مدارج النبوت میں اور

مولانا اشرف علی تھانوی نے نثر الطیب میں بھی نقل کیا

(دلیل نمبر ۷)

لا تجعلو دعا الرسول (پارہ ۱۸) کی تفسیر میں حضرت سعید

بن جبیرؓ اور مجاہدؓ نے کہا۔

قولو یا رسول اللہ فی دفع ولین ولا تقولوا

محمد بتجھم، (تفسیر قرطبی ج ۳۳۳ ج ۱۳)

یعنی حضور پر نور ﷺ کو بڑے ادب کے ساتھ یا رسول اللہ کہو اور گرج

دار آواز میں نہ پکارو۔

(دلیل نمبر ۸)

بخاری شریف میں ہے قیامت کے دن حضور پر نور ﷺ سجدے

میں ہونگے تو اللہ تعالیٰ کہے گا -

.. ارفع داسک یا محمد "

(تطہیر القوادس من دنس الاعتقاد چھاپہ ترکی ۱۸۸)

(دلیل نمبر ۹)

حضرت جبرائیل امین نے بارگاہ نبوی ﷺ میں آ کر عرض کی حضرت

عمر بن خطابؓ سے مروی ہے

"یا محمد اخبرنی عن الاسلام"

(مشکوٰۃ شریف کتاب الایمان)

(دلیل نمبر ۱۰)

وفات نبوی ﷺ کے وقت حضرت جبرائیل کے ساتھ فرشتے حضرت

اسماعیل نے عرض کی -

"یا محمد ان اللہ ارسلنی الیک"

(مشکوٰۃ شریف باب وفات النبی)

(دلیل نمبر ۱۱)

آنحضرت ﷺ نے فرمایا ایک فرشتے کو اللہ نے ساری مخلوقات کی

آوازیں سننے کی طاقت بخشی ہے وہ قیامت تک درود شریف سن کر عرض کرتا رہے گا -

"یا محمد صلی علیک فلاں ابن فلاں"

(شفا السقام ۴۶ القول البدیع ۱۳)

(دلیل نمبر ۱۲)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس ﷺ جب پیدا

ہوئے تو رضوان جنت نے آپ کے کان مبارک میں یوں عرض کی،

”البشر یا محمد فما لقبی لنبی علم قد اعطیة

فانت اکثرهم واشجعهم قلباً“

ترجمہ: یعنی یا محمد ﷺ خوشخبری ہو آپ کو کہ میں نے ہر نبی کا علم آپ کو عطا کیا ہے پس آپ کا علم تمام نبیوں سے زیادہ ہے اور آپ تمام سے زیادہ دلیر اور شجاع ہیں۔ (انوار محمدیہ)
(دلیل نمبر ۱۳)

حضرت ابو امامہ روایت کرتے ہیں کہ یہودی ایک جماعت نے نبی اکرم ﷺ سے دریافت کیا کہ کونسی جگہ بہتر ہے۔ آپ ﷺ خاموش رہے اور دل میں ارادہ کیا کہ جب تک جبرائیل نہ آئیں گے خاموش رہوں گا۔ چنانچہ جبرائیل تشریف لائے اور آپ ﷺ نے اس سے یہ سوال کیا جبرائیل نے کہا اس معاملہ میں آپ سے زیادہ نہیں جانتا لیکن اپنے رب سے دریافت کروں گا اس کے بعد جبرائیل نے کہا۔

یا محمد انی دنوت من اللہ دنو اما دنوت منه قط“

(الآخر)

ترجمہ۔ یا محمد ﷺ میں آج خدا کی بارگاہ میں اتنا قریب پہنچ گیا کہ اس سے پہلے اتنا قرب کبھی حاصل نہ ہوا حضور پر نور ﷺ نے فرمایا جبرائیل کس طرح اور کس قدر جبرائیل نے عرض کی اس قدر قریب ہوا کہ میرے اور خدا کے درمیان صرف ستر ہزار پردے نور کے باقی رہ گئے تھے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ بدترین جگہیں اور بدترین مقامات بازار ہیں اور بہترین جگہ مسجد ہے۔
یہاں تک درج بالا عبارات سے پتہ چلا کہ لفظ ندا (یا) کے ساتھ حضور اکرم ﷺ کو پکارنا سنت ملائکہ ہے۔

﴿رسول اکرم ﷺ کا حکم﴾

(دلیل نمبر ۱۴)

رسول اکرم ﷺ نے ہر زمانے کے ہر نمازی کو نماز میں اس طرح سلام عرض کرنے کا حکم دیا۔

اسلام عليك ايها النبي (مشکوٰۃ شریف ۸۵)

﴿یا رسول اللہ کہنا سنت صحابہ اکرام ہے﴾

ویسے تو صحاح ستہ کی سب کتب میں کثیر احادیث ایسی ہیں جن میں صحابہ اکرام کا یا رسول اللہ کہہ کر اپنے آقا کو پکارنا ثابت ہے۔ طوالت سے بچنے کے لیے چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(دلیل نمبر ۱۵)

جب حضور پر نور ﷺ ہجرت فرما کر مدینہ شریف میں داخل ہوئے۔

فصعد الرجال والنساء فوق البيوت وتفرق

الغلمان والخدم في الطوق بنا دودن يا محمد

يا رسول الله يا محمد يا رسول الله

(مسلم شریف ج ۲ باب الحجرت)

ترجمہ: پس عورتیں اور مردگھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے۔ اور بچے اور

غلام گلی کوچوں میں متفرق ہو گئے اور نعرے لگا رہے تھے۔ اور یوں پکار رہے

تھے یا محمد یا رسول اللہ یا محمد یا رسول اللہ

(دلیل نمبر ۱۶)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں سلام عرض کرتے تھے

السلام عليك يا رسول الله (انوار احمدیہ ۶۰۰)

(دلیل نمبر ۱۷)

سیدنا حضرت حمزہ و حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے افضل و وظیفہ یہ ہے

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ

(افضل الصلوات از بیہانی ۱۱۰)

(دلیل نمبر ۱۸)

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان میں نام اقدس سن کر انگوٹھے چومے اور آنکھوں پر لگا کر یہ کلمات کہے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ

(تفسیر روح البیان ج ۷/۲۲۹ تفسیر جلالین ۳۵۷ فتاویٰ شامی ج ۱)

(دلیل نمبر ۱۹)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں مبارک سن ہو گیا کسی نے کہا اس کو یاد کرو جو تمہیں کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے تو آپ نے بلند آواز میں کہا۔

فصاح یا محمد اے " آپ کا پاؤں مبارک ٹھیک ہو گیا۔

(شفاء شریف ج ۲/۱۸)

(دلیل نمبر ۲۰)

حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جب مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو یوں کہتا ہوں۔

السلام علیک ایہا النبی (نعرہ رسالت پر اجماع امت ص ۱۱)

(دلیل نمبر ۲۱)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان الفاظ میں درود شریف پڑھتے

تھے۔

یا محمد صلی اللہ علیک وسلم
(القول البدیع ص ۲۲۵)

(دلیل نمبر ۲۲)

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوتے تو یوں
سلام عرض کرتے

السلام علیک یا رسول اللہ (القول البدیع ص ۱۸۵)
(دلیل نمبر ۲۳)

ایک اعرابی نے روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول
اللہ ما قلت سمعنا
یعنی یا رسول اللہ آپ نے جو فرمایا ہم نے سنا اس وقت آپ سے
بخشش کا سوال ہے۔

فنودی من قبرہ قد غفر لک تو قبر سے آواز آئی تیری بخشش
ہوگئی۔ (مدارک ج ۱)

اس روایت سے حضور اکرم ﷺ کو یا رسول اللہ کہنا بعد از وصال بھی
کہنا ثابت ہو گیا۔

(دلیل نمبر ۲۴)

حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم ﷺ نے ملک شام
کے لئے برکت کی دعا فرمائی

قالوا یا رسول اللہ وفقی نجدنا

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۷۲)

ہم نے کہا یا رسول اللہ اور نجد میں بھی

(دلیل نمبر ۲۵)

حضرت ابوہریرہؓ جب اپنی والدہ کے لئے دعا کرانے بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضری دی تو یوں کہا

یا رسول اللہ ادع اللہ ان ینہدی امر ابی ہریرہ

(مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۵)

(دلیل نمبر ۲۶)

ایک دفعہ عہد فاروقی میں قحط پڑ گیا تو ایک شخص نے روضہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی

استسق لامتك یا رسول اللہ؛

یا رسول اللہ اپنی امت کیلئے بارش کی دعا کریں آپ نے خواب میں بارش کی بشارت دی۔ (حجۃ اللہ صفحہ ۴۳۰ ج ۲)

(دلیل نمبر ۲۷)

حضور پر نور ﷺ کی پھوپھی سیدہ صفیہ نے آپ کے وصال شریف کے بعد کہا۔

یا یا رسول اللہ کنت رجانا. وکنت بنا برا

ولم یتک؛ جافیا

(حجۃ اللہ ۳۲۹/۲)

(دلیل نمبر ۲۸)

حضرت ابو بکر صدیقؓ کی وصیت کے مطابق جب جنازہ روضہ اطہر کے سامنے رکھا گیا تو پھر بایں الفاظ سلام عرض کیا گیا۔

السلام علیک یا رسول اللہ. پھر عرض کی گئی کہ آپ کا غلام ابو بکر صدیق حاضر ہے. آپ کے پہلو میں دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے تو

آواز آئی۔

دوست کو دوست کے پاس پہنچا دو۔ (تفسیر کبیر جلد ۵)
(دلیل نمبر ۲۹)

ایک دفعہ حضور اقدس ﷺ کی بارگاہ میں حضرت عبداللہ بن عمرو صحابی نے اظہار مدعی کے بغیر بار بار صرف: یا رسول اللہ؛ کہا اور اپنی حاجتیں پوری کروائیں۔ (بخاری شریف ۱ ج ۳۲۲)
(دلیل نمبر ۳۰)

یوں ہی ایک دفعہ دو صحابی جو کہ انصاری تھے انہوں نے صرف: یا رسول اللہ؛ کہا اور مدعی کا اظہار نہ کیا۔ (بخاری شریف ۱ ج ۳۳۷، ۳۷۲)
(دلیل نمبر ۳۱)

صحابہ کرام جب نبی پاک ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یوں سلام عرض کرتے تھے الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اور یا نبی اللہ۔ (نیم الریاض شرح شفا ۲۵۴)
(دلیل نمبر ۳۲)

حضرت سہیل بن حنیف کا حضور اقدس ﷺ کو یا سیدی کے ساتھ خطاب کرنا وارد ہے (برکات درود شریف از مولانا ظفر احمد قادری)
(دلیل نمبر ۳۳)

آنحضرت ﷺ کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام نے حاضر بارگاہ ہو کر عرض کیا
السلام علیک یا رسول اللہ (تویر الحواک ۱ ج ۲۳۰)
(دلیل نمبر ۳۴)

حضرت کعب بن حمزہ مین لڑائی کے وقت پکار رہے تھے یا محمد ﷺ۔

(فتوح الشام ۱۷۲ مطبوعہ مصر)

(دلیل نمبر ۳۵)

حضرت ابن عمر جب بھی سفر سے واپس آتے تو روضہ اقدس پر حاضر ہو کر عرض کرتے۔

السلام علیک یا رسول اللہ (مند امام اعظم ۱۲۶)

(دلیل نمبر ۳۶)

آنحضرت ﷺ کے وصال شریف کے بعد مستورات کی محفل میں سیدۃ النساء فاطمۃ الزہرہؓ نے درود بصیغہ بایں الفاظ پڑھا۔

یا خاتم الرسل المبارک ضوئہ . صلی علیک منز

القرآن (سیرت ابن ہشام ۳۸ ج ۳)

(دلیل نمبر ۳۷)

حضور پر نور ﷺ کی پھوپھی حضرت صفیہؓ نے آپ کے وصال کے

بعد کہا

الایا رسول اللہ کنت دجانا . وکنت بنا بر

اولم تک جافیا“

(مولوی اشرف علی تھانوی نشر الطیب ۲۳۷)

(دلیل نمبر ۳۸)

حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں کہ ایک ضعیف البصر شخص بارگاہ نبوی ﷺ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا کہ اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھ کو عافیت فرمائے آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو میں تیرے لئے دعا کروں گا اور اگر تو صبر اور خدا کی رضا کا خواستگار ہے تو یہ تیرے لئے بہتر ہے اس نے عرض کی کہ دعا فرما دیجئے آپ نے اسکو حکم دیا کہ اچھی طرح وضو کر کے ان کلمات کے ساتھ

دعا کر۔

اللهم انى اسلك وانوجه اليك بنبيك محمد نبى
الرحمة يا محمد انى انوجه بك الى ربي فى
كما جتى لتفضى لى اللهم فتفعه فى

(ابن ماجہ باب صلوٰۃ الحاجت ۵۹)

(دلیل نمبر ۳۹)

اسی حدیث مبارکہ کو اہلحدیثوں کے یعنی غیر مقلدوں کے مایہ ناز عالم
مولانا نواب وحید الزمان نے بھی ہدیۃ المحدثی میں نقل کیا (ہدیۃ المحدثی)
(دلیل نمبر ۴۰)

اسی حدیث مذکورہ کو دیوبندیوں کے پیرومرشد حکیم الامت مولوی
اشرف علی تھانوی نے بھی اپنی کتاب نشر الطیب میں ذکر کیا (نشر الطیب)
(دلیل نمبر ۴۱)

اسی حدیث کو تبلیغی جماعت کے سربراہ مولوی محمد زکریا سہارنپوری
نے بھی فضائل حج میں اور ترمذی کا حوالہ دیتے ہوئے پیش کیا ہے۔
(دلیل نمبر ۴۲)

اس حدیث کو امام یوسف بن اسماعیل نبھانی نے جو اہر البحار میں بھی
نقل کیا ہے۔
(دلیل نمبر ۴۳)

اس حدیث کو حضرت مولانا حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایۃ
والنہایۃ میں ص ۳۲۲ میں نقل کیا۔ یہاں تک تو ثابت ہوا کہ حضور ﷺ کو صحابہ
کرام نے بعد از وصال بھی حاجت روائی کیلئے پکارا۔
(آقا علیہ السلام کو لفظ ”یا“ سے پکارنا سنت انبیاء کرام ہے)

(دلیل نمبر ۴۴)

بروز محشر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام پکاریں گے یا احمد یا احمد
هذا رجل منطلق به الى النار.
اے احمد اے احمد اس آدمی کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے اسے
چھڑاؤ (القول البدیع ۱۳۳۱)
(دلیل نمبر ۴۵)

جب آپ ﷺ معراج شریف کی رات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام
کی قبر انور پر پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے نماز ہی میں کہا اشہد
انک یا رسول اللہ.. یا رسول اللہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں۔
(انوار محمدیہ من الموابہ الدنیہ ۳۳۴)
(دلیل نمبر ۴۶)

حضرت سیدنا ابراہیمؑ اور حضرت سیدنا موسیٰؑ نے آواز دے کر بدین
الفاظ سلام کہا. السلام علیک یا اول السلام علیک یا آخر
السلام علیک یا حاشر (انوار محمدیہ ۳۳۴)
﴿بروز محشر کعبۃ اللہ کی پکار﴾
(دلیل نمبر ۴۷)

رسول کریم ﷺ نے فرمایا کعبہ معظمہ بروز محشر میرے روضہ اقدس پر
حاضر ہو کر یہ کہے گا ”السلام علیک یا محمد ﷺ“ اور میں
جواب دوں گا وعلیکم السلام یا بیت اللہ (تفسیر عزیزی فارسی سورۃ بقرہ ۲۶۳ھ)
﴿جانور کی پکار﴾
(دلیل نمبر ۴۸)

گرفتار شدہ ہرنی نے کہا تھا۔ یعنی فریاد کی۔

یا رسول اللہ ان لی اولاد جیاع (القول البدیع ۱۳۸/۰)

﴿ شجر و حجر کی پکار ﴾

(دلیل نمبر ۴۹)

حضرت علیؓ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضور ﷺ کے ساتھ مکہ سے باہر کسی مقام پر گیا۔ ”فما استقبلہ جبل ولا شجر الا وهو یقول السلام علیک یا رسول اللہ۔ (مشکوٰۃ شریف ص ۵۳۲) یعنی میں نے دیکھا ہر درخت ہر ڈھیلا ہر پہاڑ جو بھی راستے میں آیا حضور ﷺ سے سلام عرض کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا اسلام علیک یا رسول اللہ۔

(دلیل نمبر ۵۰)

حضور اقدس ﷺ جب کسی پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے تو وہ کہتا: الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ

(سیرت حلبیہ ص ۲۱۴ مشکوٰۃ شریف ص ۵۴۰)

(دلیل نمبر ۵۱)

حضرت بریدہؓ سے روایت ہے کہ ایک اور اعرابی نے حضور اقدس ﷺ سے آکر رسالت کی ثانی طلب کی تو آپ نے فرمایا جاؤ اس درخت سے کہو کہ تمہیں اللہ کا رسول بلاتا ہے اس نے درخت سے جا کر کہہ دیا۔ درخت ادھر ادھر جھومنا اور اپنی جڑیں اکھیر کر اپنی شاخوں سمیت حضور ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگا۔

السلام علیک یا رسول اللہ (مشکوٰۃ شریف ص ۴۴۱)

نوٹ یہاں یہ ایک نقطہ سمجھانے جا نہیں سکتا کہ جب میں نے ان مذکورہ عبارات کا بغور مطالعہ کیا تو سوچا کہ پتھروں اور درختوں کو یہ سلام کس نے سکھایا ان کا بھی کوئی استاد ہے۔ تو مجھے تو میں ایک ہی بات یاد آئی کہ اللہ کی

کوئی طاقت بھی ان بے جان و بے زبان چیزوں سے بلوانہیں سکتا۔ ہاں ایک ہی ذات ہے تو وہ صرف صرف رب تعالیٰ کی ذات مقدسہ ہے۔ تو لازماً یہ وظیفہ اور یہ ورد بھی اللہ تعالیٰ نے ہی ان کو سکھایا ہوگا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نعمت سکھائے ہیں تو بلاشک و شبہ خود خدا بھی یہی کہتا ہوگا السلام علیک یا رسول اللہ۔

السلام علیک یا نبی اللہ۔ جسکا واضح ثبوت قرآن پاک میں موجود ہے۔
یا ایھا النبی یا ایھا الرسول وغیرہ۔

عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے
حکم ربی کی طرح یہ بھی آقا کو دوہائی دیتے
﴿اقوال محدثین و مفسرین کرام﴾

(دلیل نمبر ۵۳)

امام الحدیث حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے منقول ہے کہ شیخ بہاؤ الدین شطاری نے اپنے رسالہ شطاریہ میں کیفیت سلوک تحریر کرنے کے بعد لکھا کہ کشف ارواح کے ذکر یا احمد اور یا محمد کے دو طریقے ہیں اول یہ کہ یا احمد کو داہنی طرف اور یا محمد کو بائیں طرف پڑھتے ہوئے قلب میں یا مصطفیٰ کا خیال کرے۔

دوسرا طریقہ یہ کہ یا احمد، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن یا حسین کا ذکر کرے تو تمام ارواح کا کشف ہو جاتا ہے۔ (اخبار الاخیار فارسی ۱۹۹)
(دلیل نمبر ۵۴)

امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ جب زائر روضہ اطہر پر حاضر ہو تو یوں سلام کہے ”السلام علیک ایھا النبی“ (انوار احمدیہ ۴۰۰)

(دلیل نمبر ۵۵)

حضرت شیخ مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ تقبیل الیہا میں فرمایا کرتے اور
قرۃ عینی بک یا رسول اللہ پڑھا کرتے تھے۔ (جواہر مجددیہ ۵۴)
(دلیل نمبر ۵۶)

سیدنا امام اعظم ابوحنیفہؒ نے عرض کی۔ شعر

یا سید السادات حبتک قاصداً
ارجو رضاک واحتمی بجماک

(قصیدہ نعمانیہ)

(دلیل نمبر ۵۷)

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں۔ شعر
صلی علیک اللہ یا خیر خلقہ
ویا خیر مامول ویا خیر واہب

(اطیب العم)

(دلیل نمبر ۵۸)

شہید تحریک آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی علیہ رحمۃ نے جزیرہ
انڈیا میں عرض کی۔ شعر

یا رحمت اللعالمین ارحم علی
من لا الہ فی العالمین وثناء

(الشور الہندیہ ۳۱۳)

(دلیل نمبر ۵۹)

حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلویؒ نے فرمایا۔

یا صاحب الجمال ویا سید البشر
من وجهک المنیر لقد نور القمر
(تفسیر عزیز ی پارہ ۳۰- اردو ۳۷)

(دلیل نمبر ۶۰)

قصیدہ بردہ شریف میں امام شرف الدین بو صیریؒ فرماتے ہیں
یا اکرم الخلق مالی من الودبہ
سواک عندا حلول الحادث العمیر

(قصیدہ بردہ ۲۱۸)

(دلیل نمبر ۶۱)

امام ابن حجر مکی شافعیؒ نے یوں عرض کی۔

یا رسول اللہ یا جد الحسین
کن شفیعہ یا امام الحرمین

(النعمة الکبریٰ ۳۶)

(دلیل نمبر ۶۲)

شیخ سعدیؒ فرماتے ہیں۔

چہ و صفت کند سعدی ناتمام
علیک الصلوٰۃ اے نبی والسلام

(دلیل نمبر ۶۳)

مولانا عبدالرحمنؒ جامیؒ فرماتے ہیں۔

یا نبی اللہ السلام علیک
انما الفوذ والفلاح لیدیک

(روح البیان ۱، ۱۵۲)

(دلیل نمبر ۶۴)

شیخ الحدیث مولانا الشاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے یوں عرض کی۔

خراہم در غم ہجر جمالت یا رسول اللہ
جمال خود نما حے بجاں زار شیدا کن
بحر صورت کہ باشند یا رسول اللہ کرم وفا
بلطف خود سر و سامان جمع بے سرو پا کن

(اخبار الاخیار ۳۳۳)

(دلیل نمبر ۶۵)

ڈاکٹر علامہ اقبالؒ نے بھی عرض کی

دلہن نالد چرانا لد نداند
نگا ہے یا رسول اللہ نگا ہے

(ارمغان حجاز ۳۸)

﴿مخالفین کے اکابر علماء کرام حضرات سے ندائے یا رسول اللہ کا ثبوت﴾

(دلیل نمبر ۶۶)

کلیات امدادیہ ۴۵ میں حاجی امداد اللہ مہاجر کی آقا کے روح انوار کے کشف کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں ”کہ تصور آنحضرت ﷺ کے درود شریف پڑھیں اور داہنی طرف یا احمد اور بائیں طرف یا محمد اور دل میں یا رسول اللہ ایک ہزار بار پڑھیں۔ انشاء اللہ حالت بیداری میں یا خواب میں زیارت نصیب ہوگی“ (ضیاء القلوب ۳۶)

(دلیل نمبر ۶۷)

تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا ذکریا سہارنپوری نے فضائل حج میں نقل کیا ہے کہ جو شخص حضور ﷺ کی قبر شریف کے پاس کھڑا ہو کر یہ آیت

پڑھے، ان اللہ وملتکته يصلون علی النبی ﷺ اس کے بعد ستر مرتبہ صلی اللہ علیک یا محمد کہے تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے شخص اللہ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے اور اس شخص کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔
(دلیل نمبر ۶۸)

قصائد قاسمی میں مولوی محمد قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند حضور ﷺ کی شان میں نعت کہتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں۔
مدد کر اے کرم احمدی کہ تیرے سوا
نہیں ہے قاسم بیکس کا کوئی حامی درکار
جو تو ہی ہم کو نہ پوچھے گا تو کون پوچھے گا
بنے گا کون ہمارا تیرے سوا عم خوار
(دلیل نمبر ۶۹)

دیوبندیوں کے پیرومرشد حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے فرمایا کہ دل کو تمام خیالات سے خالی کر کے حضور ﷺ کی صورت کا سفید شفاف کپڑے اور سبز پگڑی اور منور چہرہ کے ساتھ تصور کر کے ”الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ دائیں طرف اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا نبی اللہ بائیں طرف اور الصلوٰۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ کی ضرب دل پر لگائیں۔ (ضیاء القلوب ۵۱-۵۲)
(دلیل نمبر ۷۰)

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔
جہاز امت کا حق نے کر دیا ہے آپ کے ہاتھوں
بس اب چاہو تراؤ یا ڈباؤ یا رسول اللہ
(گلزار معرفت ۷)

(دلیل نمبر ۱)

مولوی ذکریا سہانپوری نے لکھا ہے کہ ابن ہمام نے فتح القدر میں نقل کیا ہے کہ سلام کے بعد پھر حضور کے وسیلہ سے دعا کرے اور شفاعت چاہیے اور یوں کہے۔

یا رسول اللہ استنک اشفاعۃ واتوسل بک الی اللہ
فی ان اموت مسلما علی ملتک وسنتک۔ (فضائل حج)

ترجمہ۔ یا رسول اللہ میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں اور آپ کے وسیلہ سے اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ میری موت آپ کے دین اور آپ کی سنت پر ہو۔

(دلیل نمبر ۲)

مولوی نواب وحید الزمان غیر مقلد لکھتا ہے کہ عام لوگ جو یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کا نعرہ لگاتے ہیں تو صرف اس کہنے کی وجہ سے ہم ان کو مشرک نہیں کہہ سکتے اور کیسے کہہ سکتے ہیں۔ جبکہ خود رسول اللہ نے مقتولان بدر کو "یا فلاں بن فلاں" کہہ کر پکارا ہے۔ (ہدیۃ الہدی)

(دلیل نمبر ۳)

حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

یا شفیع العباد خزیدی

انت فی الاضطراد معتمدی

ترجمہ: اے بندوں کے شفیع میری دستگیری کیجئے کشمکش میں تم ہی میرے

بھروسے والے یا رسول اللہ بابک لی من غمام الغموم ملتحدی

ترجمہ: اے اللہ کے رسول تیرا در میرے لیے کافی ہے ابرِ غم مجھ کو کبھی

نہ گھیرے گا۔ (فیوض قاسمیہ ۴۸ نثر الطیب)

(دلیل نمبر ۷۵)

مولوی اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں۔

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بصیغہ خطاب میں بعض لوگ کرتے

ہیں یہ اتصال معنوی پر مبنی ہے کہ اخلق والامر امر متقید بجهت و طرف و قرب

وبعد وغیرہ نہیں ہے۔ پس اس کے جواز میں شک نہیں ہے (امداد المشتاق ۵۹)

(دلیل نمبر ۷۶)

موصوف نے مرید کو تعلیم دی کہ استغفر اللہ اکیس بار پڑھ کر درود

الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ تین بار پڑھے۔

(دلیل نمبر ۷۷)

حضرت مولانا ابوزہرہ سرفراز خان لکھڑوی دیوبندی تحریر فرماتے ہیں

ہم اور ہمارے اکابر علیہ الرحمۃ الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کو بطور درود

شریف پڑھنے کے جواز کے قائل ہیں۔ کیونکہ فی الجملہ مختصر طریقہ سے درود

شریف ہی ہے۔ (درود شریف پڑھنے کا شرعی طریقہ ۷۵)

(دلیل نمبر ۷۸)

مولوی رشید احمد گنگوہی دیوبندی لکھتے ہیں۔ یا رسول اللہ قبر کے دور

سے یا نزدیک سے درود شریف کے ضمن میں کہے تو درست ہے۔

(فتاویٰ رشیدیہ ۳۲۳)

(دلیل نمبر ۷۹)

مولوی ابومعاویہ قاری محمد شریف اعوان ساکن ملہڈ تحصیل پنڈی کھیب ضلع انک کو بھی باوجود اس کے اس نے لفظ ”یا“ کے ساتھ نبی ولی کو پکارنے کو کافی حد تک برا کہا۔ پھر بھی آخر اسے بھی یہ لکھنا پڑا کہ،
”بغور دیکھا جائے تو ثابت ہوتا ہے کہ پورے قرآن میں آپ کو یا محمد نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے ادب کے ساتھ ”یا منزل“ ”یا مدثر“ ”یا یسین“ جیسے با ادب الفاظ کے ساتھ اپنے محبوب کو خطاب کیا“ اور اگلے صفحے پر لکھتے ہیں۔

”کہ صحابہ کرام نے بھی کبھی حضور ﷺ کو یا محمد سے خطاب نہیں کیا“

(سنی اور بدعتی کی صحیح پہچان ۲۲۰-۱۹۹)

(دلیل نمبر ۸۰)

اب چاہیے کہ خدا اور صحابہ کے قول و فعل پر عمل کرتے ہوئے تم بھی ضد چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ مل کر حاجی امد اللہ مہاجر کی زبان سے یوں پکارو۔

کر کے نثار آپ پر گھر بار یا رسول
اب آپڑا ہوں آپ کے دربار یا رسول
اچھا ہوں یا برا ہوں غرض جو کچھ بھی ہوں
پر ہوں تمہا راتم مرے مختار یا رسول
ہو آستانہ آپ کا ادا کی جبین
اور اس سے زیادہ کچھ نہیں درکار یا رسول

(گزار معرفت ۴)

(دلیل نمبر ۸۱)

مولوی محمد زکریا سہارنپوری بانی تبلیغی جماعت نے لکھا ہے۔ بندہ کے خیال میں اگر ہر جگہ درود سلام دونوں کو جمع کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی السلام علیک یا رسول اللہ اور السلام علیک یا نبی اللہ اخیر تک السلام کے ساتھ الصلوٰۃ کا لفظ بھی بڑھا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

(تبلیغی نصاب در نصاب فضائل درود ۷۰۳-۷۰۲)

(دلیل نمبر ۸۲)

مولوی رشید احمد گنگوہی لکھتے ہیں۔

”یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع
قالنا اننا فی بحر غمر مغرق مخزیدی سهلنا
اشفالننا اودیا اکرم الخلق مالی من الوذیة
سواک عند حلول الحادث العمر“

ایسے کلمات نظم ہو یا نثر ورد کرنا کفر و فسق نہیں بلکہ صرف مکروہ تنزیہی

ہے۔ (فتاویٰ رشیدیہ ۳۳۷)

(دلیل نمبر ۸۳)

اسی فتاویٰ رشیدیہ 398 پر مولانا مذکورہ رقم طراز ہیں کہ ”ترحم یا

نبی اللہ ترحم۔ ذمہ جو ذی برآمد جان عالم“

ایسے اشعار شرک نہیں ہیں۔ بلکہ بایں خیال پڑھے کہ اللہ تعالیٰ اس

میری عرض کو نثر دو عالم حضور ﷺ کے پیش کر دیوے۔

اے چشم شعلہ بار ذرا دیکھ تو سہی

یہ گھر جو جل رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو

معزز قارئین کرام یہاں تک آپنے قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و

محمد شین و مفسرین اور اقوال علماء کرام سے ندا یا رسول اللہ کے جواز کو پڑھا ہے مجھے یقین ہے کہ اب عقل سلیم اور خرد اقبال کا مالک کبھی بھی غیروں کے چنگل میں نہیں پھنسے گا۔ کیونکہ اب اس کے پاس دلائل قویہ و معتبرہ موجود ہیں۔
ضروری وضاحت

اس رسالہ کو ترتیب دینا محض اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول مقبول ﷺ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہے۔ کسی کی دل آزاری کرنا یا کسی مسلک پر بے جا تنقید کرنا یا کسی کے وقار کو مجروح کرنا بندہ کا خیال نہ ہی مقصود ہے بس صرف آج کل عوام کو ایسی بحثوں میں ڈال کر دربار رسول ﷺ سے دور کرنے کی ایک گھناؤنی سازش ہے مجھے امید ہے کہ آقا ﷺ کا ہر امتی عزت و ناموس مصطفیٰ ﷺ پر گستاخوں کے آمنے سامنے آ کر سر تو دے سکتا ہے مگر درمحبوب ﷺ سے دوری گوارا نہیں کرے گا۔

درحقیقت یہی ایک اصل سرمایہ ہے (عجبت رسول) کہ جس کو طاغوتی و ساراجی طاقتیں امت مصطفیٰ ﷺ کے دل سے نکالنا چاہتی ہیں۔ اور انہیں معلوم ہے کہ خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ یہود و نصاریٰ بھی مانتے ہیں۔ صرف اور صرف درمیان میں فرق محمد عربی ﷺ کی ذات ہے۔ جب ان سے تعلق کٹ جائے تو سارے اعمال رائیگاں جائیں گے۔ لیکن انشاء اللہ بقول مصطفیٰ ﷺ ”ساری امت گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی“

ہم ان گمراہ کن عقائد اور نظریات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک امت کا ایک ایک فرد بلکہ بچہ بچہ گنبد حضرتی کے جلوؤں کا مشتاق۔ مدینہ طیبہ کی گلیوں کا بھکاری اور فیوضات مصطفویٰ ﷺ کا سائل نہ بن جائے اور ہر طرف دیوانہ بن کر یہ صدا نہ لگائے کہ

غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے
یہ سرکٹ جائے یا رہ جائے تو کچھ پروا نہیں کرتے
بندہ آخر میں اپنے رسالہ کا اختتام حضرت مولانا حاجی امداد اللہ مہاجر
کلی کی نعت کے چند اشعار پر کر رہا ہے۔

پیاسا ہے تمہارے شربت دیدار کا عالم
کرم کا اپنے اک پیالہ پلاؤ یا رسول اللہ
شفیع عاصیاں تم ہو وسیلہ بے کساں تم ہو
تمہیں چھوڑ کر اب کدھر جاؤں بتاؤ یا رسول اللہ
یقین ہو جائے گا کفار کو بھی اپنی بخشش کا
جو میدان میں شفاعت کے تم آؤ یا رسول اللہ
کرم فرماؤ ہم پر اور کرو حق سے شفاعت تم
ہمارے جرم و عصیاں پر نہ جاؤ یا رسول اللہ
حبیب کبریا ہو تم امام الانبیاء ہو تم
ہمیں بحر خدا حق سے ملاؤ یا رسول اللہ
پھنسا کر اپنے دام عشق میں امداد عاجز کو
بس اب قید دو عالم سے چھڑاؤ یا رسول اللہ
یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے
اے حبیب کبریا فریاد ہے
سخت مشکل میں پھنسا ہوں آجکل
اے میرے مشکل کشا فریاد ہے

(مناجات نالہ امداد غریب)

﴿ ماخذ کتاب ﴾

- ۱- قرآن پاک مع ترجمہ کنز الایمان۔ ترجمہ از مولانا احمد رضا خان بریلوی
- ۲- تفسیر کبیر از امام فخر الدین رازی
- ۳- تفسیر جلالین از جلال الدین سیوطی
- ۴- تفسیر روح البیان از علامہ اسماعیل حقی
- ۵- تفسیر ابن عباس از سیدنا عبداللہ بن عباس
- ۶- صحیح بخاری شریف از امام محمد بن اسماعیل بخاری
- ۷- صحیح مسلم شریف از امام مسلم الحجاج
- ۸- جامع ترمذی از امام ابو یوسف محمد بن عیسیٰ ترمذی
- ۹- مشکوٰۃ المصابیح از امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ
- ۱۰- مستدرک از امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ
- ۱۱- معجم صغیر از امام طبرانی
- ۱۲- جواہر البحار از امام یوسف ہبانی
- ۱۳- البدایینۃ از حافظ ابن کثیر
- ۱۴- القول البدیع از امام محمد بن عبدالرحمن سخاوی
- ۱۵- خصائص کبریٰ از امام جلال الدین سیوطی
- ۱۶- شفا شریف از علامہ قاضی عیاض ماکنی
- ۱۷- مدارج النبوت از شیخ عبدالحق محدث دہلوی
- ۱۸- انوار محمدیہ از علامہ یوسف ہبانی
- ۱۹- المواہب اللدیۃ از امام احمد مستطانی
- ۲۰- اخبار الاخبار از شیخ عبدالحق محدث دہلوی

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>

- ۲۱۔ شرف النووی الاذکار از ابو زر کریمؓ
- ۲۲۔ افضل الصلوٰۃ از امام یوسف نہانیؒ
- ۲۳۔ حجتہ اللہ العالمین از امام یوسف نہانیؒ
- ۲۴۔ نسیم الریاض از علامہ شہاب الدین خفاجیؒ
- ۲۵۔ مسند امام اعظم از امام اعظم ابوحنیفہؒ
- ۲۶۔ سیرت ابن ہشام از علامہ ابن ہشامؒ
- ۲۷۔ نشر الطیب فی ذکر الجیب از مولوی اشرف علی تھانویؒ
- ۲۸۔ فضائل اعمال مولوی ذکریا سہارنپوریؒ
- ۲۹۔ برکات درود شریف از مولانا ظفر احمد قادریؒ
- ۳۰۔ مختصر سیرت الرسول از شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدیؒ
- ۳۱۔ قصیدہ بردہ شریف از امام شرف الدین بوسیریؒ
- ۳۲۔ قصیدہ النعمانیہ از امام نعمان بن ثابتؒ
- ۳۳۔ گلزار معرفت از حاجی امد اللہ مہاجرکیؒ
- ۳۴۔ نالہ امداد غریب از حاجی امد اللہ مہاجرکیؒ
- ۳۵۔ ارمغان حجاز از علامہ محمد اقبالؒ
- ۳۶۔ زاد المعاد از علامہ ابن قیمؒ
- ۳۷۔ صراط مستقیم از مولوی اسماعیل دہلوی قنیلؒ
- ۳۸۔ افاضات الیومیہ از مولوی اشرف علی تھانویؒ
- ۳۹۔ امداد المشتاق از مولوی اشرف علی تھانویؒ
- ۴۰۔ قصائد قاسمی از مولوی قاسم نانوتویؒ
- ۴۱۔ ماہنامہ العلماء از منہاج القرآن لاہور
- ۴۲۔ ماہنامہ منہاج القرآن از منہاج القرآن لاہور

مصنف کا تعارف

ساجزادہ عمید الرشید تبسم پشتی

پاکستان کے شہر اٹک کے دور افتادہ گاؤں ناڑہ شریف میں ایک عملی گھرانے میں پرورش پائی۔ علوم دینیہ اسلامیہ کی ابتدا انہوں نے اپنے والد محترم سے کی ابتدائی کتب اور میٹرک کی تعلیم گاؤں میں مکمل کرنے کے بعد اس پیاس کو بجھانے کیلئے جامیہ رضویہ ضیاء السلام راولپنڈی جامیہ اسلامیہ منہاج القرآن لاہور اور دیگر جامعات اسلامیہ سے فیض حاصل کرنے کے بعد اور دینی علوم کی تکمیل کے بعد اس وقت دیوانِ حضوری نزد سواہرہ میں تدریس و خطابت کے فرائض سرانجام دے رہے ہیں مجھے فخر و ناز ہے کہ مجھے ان کی شاگردی کے ساتھ ساتھ تین بھائی ہونے کا بھی اعزاز حاصل ہے استاذی المکرم کو میں نے محنتی و مخلص مشفق جیسی خداداد صفات کے ساتھ ساتھ نہایت بہترین مقرر و شاعر بھی پایا جس کی عکاسی ان کی یہ تصنیف ایمان کی جلاء کر رہی ہے یہ ان کی دوسری تصنیف ہے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ استاذی المکرم کو مزید علم و عمل کے ساتھ سرفراز فرمائے اور مزید دین متین کی خدمت کی توفیق دے۔

آمین محب سید المرسلین ﷺ

طالب دعا

محمد سعید اختر

ساکن دیوانِ حضوری

مکتبہ ضیائیہ

Click For More Books

<https://archive.org/details/@zohaibhasanattari>